

جیویں پئی تُسی جاندے او پئی اسی ویلے زبور دی کتاب دے اُتے گل کردے پئے آں۔ او اسی  
دُعا منگدیاں ہوئیاں ایس ساری گل بات نوں شروع کردے آں۔

خُداوند مسیح یسوع دے وچ ساڈے اُسمانی باپ اسی دل دیاں دُہنگیاں توں ایس اُج دے  
ویلے دے لئی تیرا شکر ادا کردے آں۔ پئی اسی سارے رل کے اُج اک واری فیر تیرے گھر  
دے وچ اکٹھے آں تاں پئی اسی تیرے پاک کلام دے اُتے دھیان کر سکئیے۔ اسی تیرا شکر  
کردے آں پئی تُو سانوں جی آیاں نوں آکھدا ایں۔ بخشش پئی اسی چہرے دے نُور نوں اپنیاں  
جیاتیاں دے وچ تلاش کریئے تاں پئی اسی تیرے بارے وچ سچائی نوں جان سکئیے۔ سانوں  
اپنے پاک کلام دیاں دُہنگیاں نوں سمجھن دے لئی فہم عطا کر۔ تُو سانوں بخشش پئی اسی اوس  
پیش قیمت فدیے نوں پچھان سکئیے جیہڑا تُو سانوں ساڈیاں پاپاں توں رہائی دیندیاں ہوئیاں  
ساڈے لئی دتا اے۔ تیرے پیار تے تیرے کلام دے وچ اک قوت پائی جاندی اے جیہڑی  
ساڈیاں جیاتیاں نوں بدلن دی قُدرت پائی جاندی اے۔ اسی تیرے پاک کلام دے لئی تیرا شکر  
ادا کردے آں جیہڑا سانوں سکھاوند اے پئی سانوں کیویں اپنیاں جیاتیاں بسر کرنیاں  
چاہیدیاں نے۔ اسی ایس سارے سوہنے ویلے دے لئی تیرا شکر کردے آں تے تیرے توں  
منت کردے آں پئی تُو سانوں برکت دے۔ اسی ایہہ سارا کُجھ تیرے سوہنے پتر ساڈے خُداوند  
یسوع مسیح دا ناہ لیندیاں ہوئیاں منگدے آں آمین۔

اسی کجھ چر توں زبور اں دے حوالے دے نال گل بات کردے پئے آں تے ایس ویلے اسی  
چنجویں زبور دے بارے گل کرن والے آں۔ پر میں ایس توں پہلاں کجھ پکھلیاں زبور اں دے  
بارے وی گل بات کراں گے۔

سب توں پہلاں اسی پہلے زبور دے بارے ویکھیا سی جمدے وچ اک مُبارک بندے دے بارے  
دے وچ گل بات کیتی گئی اے۔ تے اوہنوں اک ایویں دے رُکھ دے وانگر بیان کیتا گیا اے  
جیہڑا پانی دیاں ندیاں دے کول لگایا گیا اے۔ تے ایہہ پانی دیاں ندیاں اوہدے وچ پائی جاوَن  
والی ہمیشہ دی جیاتی نوں ظاہر کردیاں نے۔ اوہدے بارے وچ ایویں پایا جاندا اے پئی اوہدیاں  
بنیاداں پکیاں ہندیوں نے تے او اپنے ویلے اُتے پھل دیندا اے۔ ایویں دی جیاتی بسر کردیاں  
ہویاں تسی خُدا دے فضل دے وچ وہدے جاندے او۔ تہاڈی افزائش بہت ای چنگی ہندی  
اے تے ایہہ ای تہاڈے پھلدار ہون دی ضمانت اے۔ تسی خُدا دے کلام تے اوہدے فضل  
دے وچ وہدے تے ترقی کردے جاندے او۔ ایویں پہلا زبور خُدا دے وچ قائم بندے دی  
جیاتی دی عکاسی کردا اے تے ایہدے وچ بیان کیتا گیا اے پئی جے کوئی بندہ خُدا دے وچ  
قائم اے تے اوہدی جیاتی دے وچ کئی بھر پوری پائی جاندی اے۔

ایہدے باجوں اسی دوجے زبور دے بارے گل بات کیتی سی جمدے وچ سانوں خُدا دی بادشاہی  
دا ذکر ویکھن نوں ملدا اے۔ ایہہ اک بہت ای اہم زبور اے جمدے وچ سانوں خُدا دے پتر  
ساڈے خُداوند یسوع مسیح دا ذکر ملدا اے۔ جمدے وچ لکھیا ہویا اے پئی میں تے اپنے بادشاہ

نوں اپنے پاک پہاڑ دے اُتے بٹھا چکيا آں۔ ایہدے وچ خُدا تے اوہدے مسیح دا ذکر پایا جاندا اے۔ تے ایہدے علاوہ اسی ایہدے وچ خُدا دے ولوں لوکاں دی عدالت دے بارے وی ویکھدے آں۔ پہلے زبور دے وچ اسی خُدا دے ولوں اِک مُبارک بندے نوں دتی گئی جياتی نوں ویکھیا سی تے دوجے زبور دے وچ اسی خُدا دے اختیار نوں ویکھدے آں۔ ایویں اسی دھیان کیتا سی پئی ایس زمین دے اُتے جیہڑا وی کوئی بندہ کجھ اختیار رکھدا اے او خُدا دے اختیار دے پٹھاں اے تے خُدا اوہنوں ویکھدا اے۔

ایہدے باہجوں اگے وہدیاں ہوئیاں اسی تیجے زبور دے اُتے دھیان کیتا سی۔ اسی ایہدے وچ ویکھیا سی پئی او اپنے پتر ابي سلوم دی وجہ توں اپنا شہر تے اپنے تخت نوں چھڈن تے مجبور ہو گیا سی۔ اوہنوں اِک وہڈی مُصیبت دا ساہمنا کرنا پیندا اے تے او خُدا توں اپنی مدد دی درخواست کردا اے۔ ایویں ایس تیجے زبور دے وچ اسی ایس گل نوں سکھدے آں پئی بھاییں ساڈے حالات کنے وی پیہڑے ہو جاوَن خُدا سانوں اوہناں دے وچوں کڈھن دی قُدرت رکھدا اے۔ اسی اپنی جياتی دے اُتے دھیان کردے آں تے اسی ایس گل نوں محسوس کردے آں پئی اسی بہت ای زیادہ گُناہگار آں۔ پر بہت ای وہڈی تسلی دی گل ایہہ ہے پئی خُدا اے وی ساڈیاں جياتیاں دے وچ شامل ہون تے سانوں بدلن دی خواہش رکھدا اے، ایویں او ساڈی مدد کرنا چاہندا اے۔

جدوں اسی چوتھے زبور دے ول نوں وہدے آں تے اسی ویکھدے آں پئی کئی واری ایویں وی  
 ہندا اے پئی اسی کسے مُصیبت وچ پھس جاندے آں پر اسی کوئی پاپ نہیں کیتا ہندا اے۔ پر  
 تاں وی سانوں کئی لوکاں دے ولوں کئی طرح دیاں الزاماں دا ساہمنا ہندا اے۔ تے لوکی  
 سانوں ایویں آکھدے نے پئی ضرور اسی کوئی پاپ کیتا اے ایس لئی سانوں ایس وہڈی مُصیبت  
 دا ساہمنا کرنا پیا اے۔ پر اصل دے وچ ساڈے اُتے آون والی مُصیبت دا تعلق ساڈے کسے  
 پاپ یاں ساڈی کسی غلطی دے نال نہیں ہندا اے۔ سگوں ایہدے چکھے خُدا کوئی ہور ای  
 مقصد ہندا اے۔ او ایس ویلے دے وچ وی ساڈیاں جیتیاں دے وچ کم کردا ہندا اے۔ پر  
 دوجے لوکی ایس گل نوں سمجھے بغیر ای گلاں کردے نے پئی اسی ضرور کوئی پاپ کیتا اے ایس  
 لئی ای سانوں ایس وہڈی مُصیبت دا ساہمنا اے۔ پر اوہناں نوں جواب دیون دی بجائے  
 ایہناں ساریاں گلاں نوں اک درخواست دے طور تے خُدا دے سامنے رکھدا اے۔ او خُدا توں  
 اپنی مدد دے لئی منت کردا اے۔ او اصل وچ اپنیاں اوہناں ویریاں دی وجہ توں کجھ پریشان  
 اے جیہڑے اوہنوں بغیر کسے وجہ دے دُکھ دیندے نے۔ او اپنا بھروسہ خُدا دے تے اوہنوں  
 ای اپنی مدد دے لئی آکھدا اے کیوں جے لوکی آکھدے نے پئی ہُن خُدا دے ولوں اوہدی کُکمک  
 نہ ہوئے گی۔ پر او جدوں خُداوند خُدا دے ولوں تسلی پاندا اے تے او اپنے اندر پائے جاوَن  
 والے اوس الہی اطمینان دا اظہار کردا اے تے او اوہناں لوکاں دے نال مخاطب ہندا اے  
 جیہڑے پہلاں اوہدے خلاف بولدے سن۔ ایویں او خُداوند اپنے خُدا دے اُتے اپنے کامل توکل

نوں ظاہر کردا اے۔ ایس زبور دے وچ پائی جاون والیاں لفظاں توں ایویں لگدا اے پئی  
ایہدے وچ تے ایہدے توں پہلے زبور دے وچ اک ای جیسی صورتِ حال پائی جاندی اے۔  
پر سب توں اہم گل ایہہ پائی جاندی اے پئی او اپنے ہر طرح دے حالات دے وچ اپنا توکل  
خداوند اپنے خُدا دے اُتے رکھدا اے۔

تے ہُن ویلا اے پئی اسی اگے وہدیے تے اپنی راہنمائی دے لئی اگلے زبور یعنی ایس ۵ ویں زبور  
دے اُتے دھیان کریے۔ تے ویکھئیے پئی خُدا کیویں ایس زبور دی رائیں ساڈی راہنمائی کرنا  
چاہندا اے۔ میں تُھاڈی راہنمائی دے لئی ایس زبور دے عبرانی ترجمے نوں وی پیش کراں گا  
تاں پئی اسی اوہناں لفظاں نوں چنگی طرح دے نال جان سکئیے جہناں دے اُتے اتھے بہتا  
زور دتا گیا اے۔ تے اسی جانیا سی پئی جدوں اسی کسے عبارت نوں پڑھدے آں تے اوہدے  
وچ سانوں لفظاں دی ترتیب دوجیاں بولیاں دے نالوں وکھ وکھالی دیندی اے۔ اسی دھیان کیتا  
سی پئی عبرانی بولی دے وچ ایہنوں پڑھن دے نال سانوں ایہدے اُتار چرھاؤ دے بارے پتہ  
لگدا اے تے کیہڑیاں گلاں نے جہناں نوں حکماں دے معنیاں دے وچ لیا گیا اے۔ تے اُج  
وی اسی اپنی راہنمائی دے لئی خُدا دے پاک کلام دے وچوں ویکھاں گے تے اپنے لئی سکھاں  
گے۔ آو اسی باقاعدہ طور تے ایہنوں پڑھدے آں۔ خُدا دے پاک کلام دے وچ ایویں لکھیا ہویا  
اے:

میرِ مُغنی دے لئی بانسلیاں دے نال داؤدا دا زبور

اے خُداوند میریاں گلاں دے اُتے کن لگا!

میریاں ہاواں دے اُتے دھیان کر!

اے میرے بادشاہ! اے میرے خُدا! میرے فریاد دے ول نوں دھیان کر۔

کیوں جے میں تیرے توں ای دُعا کردا آں۔

اے خُداوند! تُو سویر نوں میری آواز سُنیں گا

میں سویرے ای تیرے توں دُعا کر کے اڈیکاں گا۔

کیوں جے تُو اجیہا خُدا نہیں ایں جیہڑا شرارت توں خُوش ہویں

بدی تیرے نال نہیں رہ سکدی اے

گھمندی تیرے حضور نہ کھلون گے۔

تینوں سب بد کرداراں توں نفرت اے

تُو اوہناں نوں جیہڑے جھوٹ بولدے نے ہلاک کردیویں گا۔

خُداوند نوں خونیاں تے دغا دیون والیاں توں کراہیت اے۔

پر میں تیری شفقت دی کثرت دے سببوں تیرے گھر دے وچ آواں گا

میں تیرا رعب من کے تیری پاک ہیٹل دے ول نوں مُنہ کر کے سجدہ کراں گا۔

اے خُداوند! میرے ویریاں دے سببوں مینوں اپنی صداقت وچ چلا۔

میرے اگے اگے اپنیاں راہ نوں صاف کردے

کیوں جے اوہناں دے مُنہ دے وچ ذرہ سچائی نہیں

اوہناں دا باطن محض شرارت اے۔

اوہناں دا گلا کھلی قبر اے۔

او اپنی زبان توں خوشامد کردے نے

اے خُدا تُو اوہناں نوں مُجرم ٹھہرا

او اپنیاں ای مشوریاں توں تباہ ہون

اوہناں نوں اوہناں دیاں پاپاں دی کثرت دی وجہ توں خارج کردے

کیوں جے اوہناں نے تیرے توں سرکشی کیتی اے۔

پر او سارے جیہڑے تیرے اُتے بھروسہ رکھدے نے شادمان ہون۔

او سدا خُوشی دے نال للکارن کیوں جے تُو اوہناں دی حمایت کردا ایں

تے او سارے جیہڑے تیرے نال توں محبت رکھدے نے او تیرے وچ شاد رہن۔

کیوں جے تُو صادق نوں برکت دیویں گا

اے خُداوند! تُو اوہنوں کرم دے نال سپردی طرح ڈھک لیویں گا۔

خُدا دے پاک کلام دے پڑھے تے سُنے جاوَن تے اوہدی برکت ہوئے، خُداوند دا شکر۔

اسی پہلاں دی طر ایس زبور دے اک اک حصے تے اک اک آیت دے اُتے دھیان کراں  
گے۔ او اسی سب توں پہلاں پہلیاں تن آیتاں دے اُتے دھیان کردے آں جتھے ایویں لکھیا  
ہویا اے:

اے خُداوند میریاں گلاں دے اُتے کن لگا!

میریاں ہاواں دے اُتے دھیان کر!

اے میرے بادشاہ! اے میرے خُدا! میرے فریاد دے ول نوں دھیان کر۔

کیوں جے میں تیرے توں ای دُعا کردا آں۔

اے خُداوند! تُو سویر نوں میری آواز سُنیں گا

میں سویرے ای تیرے توں دُعا کر کے اڈیکاں گا۔

ایہناں آیتاں دے وچ اسی ایس گل نوں محسوس کردے آں پئی زبور نویس دُکھ دی حالت دے

وچ اے تے اوہدیاں لفظاں توں ایہہ پتہ لگدا اے پئی اوہدا دُکھ وہدا اے۔ او ہاواں بھر بھر کے

خُدا دے سامنے اپنیاں التجاواں نوں پیش کردا پیا اے۔ اوہدے غم دے سببوں ایویں لگدا پیا

اے پئی اوہدے ہوش اڈے ہوئے نے۔ تے عام طور تے ایویں دے حالات دے وچ سانوں

سمجھ نہیں آوندی اے پئی اسی کیہ کریئے تے کیویں اسی اپنے دُکھ نوں بیان کریئے۔ پر اک

گل جیہڑی اسی کردے آں تے کر سگدے آں او ایہہ ہے پئی اسی خُدا دے سامنے رو سگدے

آں تے کراہندیاں ہوئیاں اسی اپنیاں منتاں نوں اوہدے اگے پیش کر سکدے آں۔ کیوں جے  
 خُدا ساڈی حالت نوں جاندا اے تے اوہنوں پتہ اے پئی ساڈا دکھ کنا وہڈا اے۔ ایہہ ای وجہ  
 اے پئی زبور نویس آکھدا اے پئی اے خُدا تُو میریاں گلاں دے اُتے کن لگا۔ ایویں او خُدا دا  
 دھیان اپنے ول نوں کرواندا اے تے اوہنوں آکھدا اے پئی میریاں ہاواں دے اُتے دھیان کر۔  
 تے فیر دوجی آیت دے وچ سانوں بادشاہ یعنی ملک تے خُدا بطور لیلوہیم دا ذکر ملدا اے۔  
 تھانوں یاد ہوئے گا پئی سانوں کئی مضموناں دے وچ ملک صدق دے بارے تے خُدا دے بارے  
 لیلوہیم دے طور تے گل بات کیتی سی۔ پُرانے عہد نامے دے وچ سانوں خُدا دے بارے یہوواہ  
 دا ناں ملدا اے جیہڑا خُدا دا بہت ای مُقدس ناں اے، خُدا نے اپنے آپ نوں موسیٰ تے  
 دوجیاں نبیاں دے اُتے ایس ای ناں توں ظاہر کیتا سی۔ ایویں ایہہ آکھیا جاسکدا اے پئی ایہہ  
 خُدا دا ذاتی ناں اے۔ جدوں وی اسی خُدا نوں اوہدے ذاتی ناں توں سدے آں تے اسی  
 اوہنوں ایہہ یاد کرواندے آں پئی خُدا نے ساڈے نال اک عہد کیتا ہویا اے، اوہنے ساڈے  
 نال اک ابدی عہد بنھیا ہویا اے۔ ایویں جدوں وی اسی خُدا نوں اوہدے ذاتی ناں توں سدے  
 آں تے اسی اصل وچ اوہنوں ایہہ یاد دواندے آں پئی اے خُدا اسی تیرے لوک آں تے اپنے  
 اوس عہد دی رائیں تُو سانوں اپنی عجیب قُدرت دے نال بچا۔

ایویں ایہہ خُدا دا بہت ای ذاتی تے مُقدس ناں اے پر جدوں اسی خُدا نوں لیلوہیم دے طور  
 تے سدے آں تے اسی اوہنوں اک بادشاہ یاں اک انصاف کرن والے دے طور تے بلاوندے

آں کیوں ایہہ خُدا دا خطاب اے۔ ایویں ای جدوں اسی انگریزی لفظ لارڈ دے اُتے دھیان  
 کردے آں جہدا پہلاں حرف ایل وہڈا ہندا اے تے ایہدے توں مُراد ایڈونائی اے جہدا ترجمہ  
 مالک یا آقا کیتا گیا اے۔ جدوں الیشع دا خادم اوہنوں بلاوندا اے تے او اوہدے لئی لفظ ایڈونائی  
 ورتدا سی یعنی اوہ اوہنوں اپنا مالک یا اپنا آقا آکھدا سی۔ ایہدے علاوہ اسی پُرانے عہد نامے دے  
 وچ کئی واری ایہہ ای لفظ بہواہ خُدا دے لئی ورتدیا گیا ویکھدے آں، کیوں جے او ساڈا مالک  
 تے ساڈا خُداوند اے۔ زبور نویس خُدا دے سامنے اپنیاں منتاں نوں پیش کردیاں ہوئیاں  
 کئیاں لفظاں نوں ورتدا اے۔ او اوہنوں بادشاہ، بہواہ، اپنا مالک تے انصاف کرن والا آکھدا  
 اے۔ عبرانی زبان دے وچ سانوں ملکِ صدق دا ذکر ویکھن نوں بلدا اے جہدا ترجمہ راستبازی  
 دا بادشاہ اے تے لیلوہیم حکمرانی دیاں معنیاں دے وچ آوندا اے۔  
 زبور نویس اتھے خُدا دے نال اپنے ذاتی تعلق نوں بیان کردا اے تے او اتھے ایہہ نہیں آکھدا  
 اے پئی اے ساڈے خُدا یاں اے ساڈے بادشاہ!  
 سگوں او آکھدا اے پئی اے میرے خُدا! اے میرے بادشاہ!  
 ایہدے توں مُراد او خُدا نوں اپنا مالک تے اپنا بادشاہ آکھدا اے۔ ایویں او اوہدی حاکمیت دا اقرار  
 کردا اے تے اوہدے ای اگے اپنیاں فریاداں نوں پیش کردا اے پئی تُو میریاں ہاداں اُتے  
 دھیان کر۔ او اپنی ایس حالت دے وچ اوہدے توں مدد حاصل کرن دی خواہش رکھدا اے۔

میں اپنی ذاتی دُعا دے وچ خُدا توں مدد منگدیاں ہوئیاں ایویں آکھدا آں پئی اے میرے خُدا تُو  
 مینوں ہر پاسیوں سنبھال تے مینوں اپنیاں راہواں نوں دکھا۔ میں اوہدیاں وعدیاں تے اوہناں  
 نوں پوریاں کرن دے لئی اوہدا شکر ادا کردا آں۔ یاد رکھو پئی خُدا چاہندا اے پئی اسی اوہنوں  
 پُکارتے تے ایس گل دا دھیان رکھئے پئی خُدا ساڈے توں کیہ چاہندا اے۔ اسی اوہدے پاک  
 کلام دے وچوں اوہدے کردار دا مُطالعہ کردیاں ہوئیاں اوہدے بارے دے وچ بہت کُجھ جان  
 سکدے آں۔

دوجی آیت دے وچ او آکھدا اے پئی اے خُداوند میں سویرے ای اُٹھ کھلوندا آں تے تینوں  
 پُکارتا آں۔ کیوں جے او ایس گل دا اقرار کردا اے پئی خُدا سویر نوں میری آواز نوں سنیں گا۔  
 اسی اپنی ہر اک صُبح نوں اپنے خُدا داناں لیندیاں ہوئیاں شروع کردے آں۔ اسی صُبح سویرے  
 ای خُدا دے سامنے حاضر ہو جاندا آں تے اوہدے توں منت کردے آں پئی تُو ساڈیاں  
 جیتیاں دے وچ ایہہ کم کر۔ سانوں ایس ایس کم دے وچ جیہڑا اسی آج دے دے دن  
 دے وچ کرن والے آں تیری مدد چاہیدی اے۔

جدوں میں ذاتی طور تے کسے ایویں دے مسئلے دے بارے دے وچ دُعا کردا آں تے میں  
 اوہنوں آکھدا آں پئی اے خُداوند تُو ایسا سارے کم دے وچ مینوں اپنا راہ دکھا۔ تُو میری مدد  
 کر پر میں ایہہ وی چاہندا آں پئی ایس سارے کم دے وچ تیری ای مرضی پوری ہوئے۔  
 میں ایس گل دے اُتے ایمان رکھدا آں پئی جے کوئی کم پورا نہیں ہندا اے تے اوہدے وچ

اوہدی مرضی شامل ہندی اے۔ تے میں خوش ہندا آں پئی خُدا نے میری مدد کیتی اے تے  
اوہدی ای مرضی پوری ہوئی اے۔

تے فیر چوتھی توں چھیویں آیت دے وچ ایویں لکھیا ہويا اے:

کیوں جے تُو اجیہا خُدا نہیں ایں جیہڑا شرارت توں خوش ہویں

بدی تیرے نال نہیں رہ سکدی اے

گھمنڈی تیرے حضور نہ کھلون گے۔

تینوں سب بد کرداراں توں نفرت اے

تُو اوہناں نوں جیہڑے جھوٹ بولدے نے ہلاک کر دیویں گا۔

خُداوند نوں خونیاں تے دغا دیوں والیاں توں کراہیت اے۔

ایویں اتھے سانوں خُدا دیاں صفتاں دے بارے ذکر ملدا اے۔ او اتھے اک طرح دے نال خُدا

دی جان پہچھان کرواندا پیا اے پئی خُدا کون اے تے او کیہ چاہندا اے۔ کیہڑیاں گلاں نے

جمنال نوں او پسند نہیں کردا اے۔ اتھے سانوں زبور نویس دیاں لفظاں توں ایویں لگدا اے

پئی اوہنوں ایہناں ساریاں لوکاں دا ای سامنا اے جمنال دے بارے او ایہناں اُتے بیان

کیتیاں ہوئیاں آیتاں دے وچ بیان کردا پیا اے۔ ایہناں دے وچ او شرارت دا ذکر کردا اے،

او بدی کرن والیاں دے بارے وچ گل کردا اے، او بدکاراں دے بارے دے وچ آکھدا اے پئی

خُدا اوہناں نوں پسند نہیں کردا اے۔ او جھوٹ بولن والیاں دے بارے آکھدا اے پئی خُدا

اوہناں نوں ہلاک کرے گا۔ تے فیر او بیان کردا اے پئی خُدا نوں خونیاں تے دغا دیون والیاں  
توں سخت نفرت اے۔ او اہمناں ساریاں گلاں نوں رکھن والیاں دے ولوں مُصیبت دا سامنا  
اے۔

ایویں او خُدا نوں ایہہ یاد کرواندا پیا اے پئی تینوں اہمناں لوکاں توں نفرت اے، تُو  
اہمناں نوں پسند نہیں کردا این پر تاں وی میں اوہناں دے ولوں مُصیبت وچ پیا آں۔ فیر  
تُو کیوں اہمناں لوکاں دے مُقابلے دے وچ جہناں نوں تُو پسند نہیں کردا این میری مدد نہیں  
کردا پیا این۔ او خُدا نوں اوہدیاں وعدیاں نوں یاد کرواندا پیا اے۔ او خُدا نوں آکھدا اے پئی تُو  
تے ایویں کرنا پسند کردا این تے ایہہ او لوکی نے جہناں نوں تُو اپنے حضور دے وچ برداشت  
نہیں کردا این۔ مینوں پتہ اے پئی ایہہ سارے لوکی جیہڑے مینوں تنگ کردے نے اوہناں  
نوں تُو پسند نہیں کردا این۔ او اوہنوں نوں مُحاطب کردیاں ہوئیاں آکھدا اے پئی تُو ایویں دا  
خُدا نہیں این جیہڑا بدی نوں پسند کردا ہویں۔ او اتھے خُدا دے لئی ایوہیم دا لفظ ورتدا اے  
تے ایہہ وی پئی تُو ایویں دا خُدا نہیں این جیہڑا بدی نوں پسند کردا این سگوں تینوں بدی  
توں نفرت اے۔ چوتھی آیت دے دوجے حصے دے وچ ایویں لکھیا ہویا اے پئی بدی تیرے  
حضور دے وچ نہیں رہ سکدی اے۔ کیوں جے خُدا انصاف کرن والا خُدا اے ایس لئی او  
راستی دے نال عدالت کرے گا۔ اک انصاف کرن والا ہون دی وہ توں اوہدے اُتے بہت  
ساریاں ذمہ داریاں عائد ہندیاں نے جہناں دے مُطابق اوہنوں انصاف دے کم نوں پورا کرنا

ہندا اے۔ بہت ساریاں گلاں نے جیہڑیاں اک انصاف کرن والے نوں پسند نہیں ہندیاں  
نے تے او اوہناں نوں کدی وی اپنے کول پسند نہیں کردا اے۔ ایویں اک راستباز بندے  
دی ایہہ ذمہ داری ہندی اے پئی او بدی توں دُور رہوئے۔ تہاڈی جیاتی دے وچ کسے وی طور  
تے کوئی وی ایویں دی گل نظر نہیں آونی چاہیدی اے جیہڑی خُداوند تہاڈے خُدا نوں چنگی نہ  
لگدی ہوئے۔

اسی اپنی جیاتی دے ہر اک دے وچ تے ہر اک گل دے وچ خُداوند اپنے خُدا توں راہنمائی  
منگ سکدے آں۔ اسی اوہدے توں پچھ سکدے آں پئی خُداوند میں ایس کم نوں کیویں  
کراں۔ تے ایہہ وی پئی کیہ میرے ایس کم دے کرن دے وچ تُو خوش ایں یا ایہدے وچ  
تیری مرضی شامل ہے؟

جدوں اسی کسے مُنصف دے بارے دے وچ گل کردے آں تے ایہہ بہت ای ضروری ہندا  
اے پئی اوہدی ذات دے وچ راستی تے ایمانداری شامل ہون۔  
چنجویں آیت ایس گل نوں بیان کردی اے پئی گھمندی تیرے حضور دے وچ نہ کھون پاؤن گے  
تے تینوں ساریاں بدی کرن والیاں توں نفرت اے۔ خُدا بدی کرن والیاں دی عدالت کرے  
گا تے اوہناں نوں ہلاک کرے گا۔ او اوہناں نوں اپنے حضور دے وچ نہیں رہن دیوئے گا  
تے او کدی وی اوہدے نال اوہدے ابدی جلال دے وچ شامل نہ ہو پاؤن گے۔ او آکھدا اے پئی  
بدی کرن والے کدی وی خُدا دی بادشاہی دے وارث نہیں ہون گے۔ پر میں خُدا دی ابدہ

بادشاہت دے وچ داخل ہواں گاتے اوہدے جلال نوں ویکھاں گا۔ مینوں پتہ اے پئی میں  
خدا دی ابدی بادشاہی دے وچ داخل ہواں گاتے اوہدے وچ ہمیشہ دی جیاتی شادمانی دے نال  
گزاراں گا۔ بالکل ایویں ای تہاڈے وچوں وی ہر اک اپنے تے خدا دے درمیان پائے جاوے  
والے تعلقات توں آگاہ اے تے جاندا اے پئی کیہ تہی اوہدے نال ابدی جیاتی دے وچ داخل  
ہوسکو گے یا نہیں۔ ہوسکدا اے پئی ساڈے وچوں کوئی وی ایس قابل نہ ہوئے پئی اوکسے  
دوبے بندے دے بارے دے وچ کجھ دس سکے پر اسی اپنے ای بارے دے وچ چنگی طرح دے  
نال جاندا اے پئی اسی ایس ویلے کتھے کھلوتے ہوئے آں۔ میں ایہہ آکھیاں ہوئیاں تہاڈے  
وچوں کسے نوں آرزوہ کرنا نہیں چاہندا آں پئی تہی تے اوہناں بندیاں دے وچ شامل نہیں او  
جیہڑے خدا دی بادشاہی دے وچ شامل ہون گے۔ پر میں ایہہ چاہندا آں پئی ساڈے وچوں ہر  
کوئی اپنے آپ دے اُتے دھیان کرے پئی کیہ میں ایس قابل آں پئی میں خداوند یسوع مسیح  
دی آمد تے بدلاں دے اُتے اڈ کے اوہنوں جی آیاں نوں آکھاں گا۔ تے بے ایویں نہیں اے  
تے فیر مینوں کیہ کرنا چاہیدا اے؟

آؤ اسی اگے وھدے آں تے ایس سوہنے زبور دی ستویں آیت دے اُتے دھیان کردا آں جتھے  
ایویں لکھیا ہويا اے:

پر میں تیری شفقت دی کثرت دے سببوں تیرے گھر دے وچ آواں گا  
میں تیرا رعب من کے تیری پاک ہیكل دے ول نوں منہ کر کے سجدہ کراں گا۔

استھے سانوں اک راستباز تے اک شریر بندے دے تعلق دے نال اک موازنہ ویکھن نوں بلدا  
اے۔ او آکھدا اے پئی شریر عدالت دے وچ نہ کھلو سکن گے۔ پر او آکھدا اے پئی میں تیری  
رحمت دے سببوں تیرے گھر سے وچ آواں گا۔ خُدا بدکاراں نوں قبول نہیں کرے گا پر او  
میدنوں اپنے گھر دے وچ آون دی اجازت دیونے گا۔ اے میرے خُدا میں بدکاراں دے وچ  
شامل نہیں ہندا آں ایس لئی اے میرے خُدا تُو میرے ول نوں دھیان کرتے میری منت دی  
آواز نوں سُن لے۔ او اپنے آپ نوں خُدا دے حضور وچ بھلا ظاہر کردا اے۔

او اپنے آپ دے بارے دے وچ چنگی طرح دے نال جاندا اے ایس ای لئی او ایویں آکھدا  
اے۔ پر جدوں اسی شریراں دے تعلق دے نال دھیان کردے آں تے اسی ویکھدے آں پئی  
او وی اپنے آپ نوں شریر نہیں آکھدے نے۔ ایہہ وی ہوسکدا اے پئی او وی اپنے آپ نوں  
بہت ای چنگا خیال کردے ہون تے او آکھدے ہون پئی او جو کجھ وی کردے پئے نے او بالکل  
ٹھیک اے۔

استھے زبور نویس خُدا دے فضل دی خواہش کردا اے تے او خُدا توں رحم کرن دے لئی آکھدا  
اے۔ او خُدا نوں ایس لئی ایویں کرن دے لئی آکھدا اے کیوں جے او جاندا اے پئی خُدا ایویں  
کر سکدا اے تے او اوہدی آواز نوں سُن دیاں ہوئیاں ایویں کرے گا۔ ایس لئی او خُدا توں منت  
کردا اے پئی اوہ اپنے فضل تے اپنی رحمت دے نال ایویں کرے گا۔ او خیال کردا اے پئی  
میں اپنے ایمان دی رائیں ای ایہدے تیکر رسائی حاصل کیتی اے۔ ایس لئی او آکھدا اے پئی

ابہدے وچ آزادی اے۔ جیویں پئی پنجویں آیت دے وچ ایویں لکھیا ہويا اے پئی میں اپنی  
شفقت دی کثرت دے سببوں تیرے گھر دے وچ آواں گا۔ کیوں بے او جاندا اے پئی اسی خُدا  
دے گھر دے وچ اوہدی محبت نوں محسوس کردے آں تے ایویں اسی اپنے خوف توں رہائی تے  
آزادی پاوندے آں۔

تے فیر اٹھویں آیت دے وچ ایویں لکھیا ہويا اے:

اے خُداوند! میرے ویریاں دے سببوں مینوں اپنی صداقت وچ چلا۔

میرے اگے اگے اپنیاں راہ نوں صاف کردے

زبور نویس خُدا توں التجا کردیاں ہوئیاں اگھدا اے پئی اے میرے خُدا میرے ویری میرے  
سلمانے کھلوتے نے تے تُو اوہناں دے مُقابلے وچ میری مدد کرتے مینوں اپنی راستی دے وچ  
چلا۔

جدوں اسی اپنیاں ویریاں دے بارے دے گل کردے آں تے سانوں پتہ اے پئی ویری ہمیشہ  
ایس گل دی ٹوہ دے وچ ای رہندے نے پئی کدوں اوہناں دے ویری کمزور وکھالی دیوں تے  
کدوں او اوہناں دے اُتے حملہ کر دیوں۔ تے کئی واری ایویں وی ہندا اے پئی تہاڈے ویری  
تہاڈیاں رہواں دے وچ لُک کے بیٹھ جاندے نے تے او ایس ویلے دا انتظار کردے نے پئی  
جدوں تھی او تھوں لہنگوتے او تہاڈے اُتے حملہ کر دیوں۔

خُدا امن نوں پسند کردا اے تے او او اپنیاں لوکاں توں وی ایہہ ای توقع کردا اے۔ خُدا  
جنناں نوں پسند کردا اے او اوہناں نوں امن دیندا اے۔ او اوہناں دیاں چاراں پاسیاں دیاں  
ویریاں توں اوہناں نوں آرام دیندا اے۔ خُدا امن قائم کردا اے تے او ای اوہنوں ہمیشہ تیکر  
قائم رکھدا اے۔

زبور نوں اپنیاں ویریاں دی وجہ توں پریشان اے تے او اپنی ایس مُشکل نوں خُدا دے سامنے  
رکھدا اے، او آکھدا اے پئی خُداوند میرے ویری میریاں راہواں دے وچ پھندہ لگا کے بیٹھے  
ہوئے نے تے میں نہیں جاندا آں پئی او کدوں میرے اُتے حملہ کردیوں گے۔ میں اوہناں  
دیاں لگایاں ہوئیاں پھندیاں دی وجہ توں ڈردا آں پئی میں کتے اپنی راہ توں بھٹک نہ  
جاواں۔ میں تیری منت کردا آں پئی تُو میری مدد کر پئی میں اپنیاں ویریاں دی وجہ توں  
بھٹک نہ جاواں۔ بخش پئی میں تیری مدد دے نال سدھی راہ دے اُتے اُتے اُتے اُتے۔ ایویں نجہ  
ہوئے پئی میں اپنی کسے نکلی جیسی غلطی دی وجہ توں نقصان اٹھاواں تے سدھی راہ توں بھٹک  
جاواں۔ یاں ایویں نہ ہوئے پئی میرے کسے غلط قدم دی وجہ توں میریاں ویریاں نوں میرے  
اُتے آواز اُٹھاواں دا موقع ملے۔

ساڈیاں جیتیاں دے وچ بہت سارے ایویں دے موقع آوندے نے جدوں اسی ایویں دے کم  
کردے آں جنناں دے بارے دے وچ اسی جاندا آں پئی ایویں کرنا چنگا نہیں اے تے ایویں  
کرنا ساڈے لئی نقصان دا سبب ہوسکدا اے۔ کئی واری سانوں واضح طور تے پتہ نہیں ہندا

اے پئی سانوں ایویں کرنا چاہیدا اے یا نہیں، ایویں دی حالت دے وچ اسی خُداوند اپنے خُدا  
توں مدد منگ سکدے آں۔ ساڈی جیاتی دے وچ پیش آون والیاں بہت ساریاں ناکامیاں دی  
وجہ اسی آپ ای ہندے آں۔ جدوں اسی کسے وہڈی مُصیبت دا شکار ہندے آں تے کئی واری  
دھیان کرن تے سانوں پتہ لگدا اے پئی ایس سارے کجھ دے پچھے ضرور ساڈی کوئی غلطی پائی  
جاندی اے۔ کئی واری نکلی جینی لاپرواہی سانوں بہت ای وہڈی مُشکل دے وچ پادیندی اے۔  
زبور نویس ایس گل نوں بیان کردا اے پئی اوہدے ویری بہت ای چالاک نے تے او نہیں  
جاندا اے پئی او کیویں اوہنوں شکار کرن دا منصوبہ بناوندے پئے نے۔ پر او دُعا کردا اے پئی  
خُداوند میری مدد کر پئی میں اوہناں دی وجہ توں اپنی راستبازی نوں چھڈ نہ دیواں۔ ایس آیت  
دے دوجے حصے دے وچ ایویں لکھیا ہویا اے پئی اے خُداوند تُو میرے اگے اپنیاں  
راہواں نوں صاف کردے۔

او جاندا اے پئی خُدا ایویں کر سکدا اے ایس لئی او خُدا توں اپنی مدد دے لئی آکھدا اے۔ او خُدا  
دے پچھے پچھے ٹرن دی خواہش نوں ظاہر کردا اے۔ او اوہنوں آکھدا اے پئی تُو میرے اگے  
اگے چل تے میرے اگے اپنیاں راہواں نوں سدھا کر دے تے میں تیریاں پیراں دیاں  
نشاناں نوں ویکھدیاں ہوئیاں اگے وہدنا چاہنا آں۔ او ایس گل دا اظہار کردا اے پئی خُداوند  
میں چاہندا آں پئی میری جیاتی دے سارے مُعلّے صاف تے پاکیزہ ہون۔ او خُدا توں چاہندا  
اے پئی او اوہنوں پاکیزگی عطا کرے تے او اوہنوں کسے وی پاپ نوں کرن توں محفوظ رکھے تاں

پئی او اپنے ای کسے پاپ دی وجہ توں کسے پریشانی دے وچ نہ پے جاوئے۔ او نہیں چاہندا اے  
پئی او اپنی ای کسے خطا دی وجہ توں کسے مُشکل دا شکار ہو جاوئے۔ او ایہہ خواہش رکھدا اے پئی  
او راستی دی راہ دے اُتے چلدا ای رہوئے۔ او خُدا توں مدد چاہندا اے تاں پئی او کدی بھٹک  
نہ جاوئے۔

اگے و ہدے آں تے ویکھدے آں پئی خُدا دا بندہ داؤد ۹ ویں آیت دے وچ ایویں بیان کردا  
اے:

کیوں جے اوہناں دے مُنہ دے وچ ذرہ سچائی نہیں

اوہناں دا باطن محض شرارت اے۔

اوہناں دا گلا کھلی قبر اے۔

او اپنی زبان توں خُشامد کردے نے

ایویں دے لوک جیہڑے سچ نہیں بولدے نے او اپنے لئی تے دو جیاں دے لئی ہلاکت دا

سبب بندے نے۔ سچ کسی وی جیاتی دے وچ برکت دا سبب ہندا اے پر ایہدے اُلٹ

جھوٹ بندے نوں ہلاکت دے ول نوں لے جاندا اے۔ زبور نویس اوہناں لوکاں دے بارے

دے وچ گل کردا اے جہناں دے سببوں اوہنوں ایس مُصیبت دا سامنا کرنا پیندا اے۔ تے

ایتھے او اپنی ایس ساری مُصیبت نوں خُدا دے سامنے پیش کردا اے۔ او اوہناں دے بارے خُدا

نوں آکھدا اے پئی اوہناں دے مُنہ دے وچ ذرہ وہ سچائی نہیں پائی جاندی اے تے اوہناں

دے من دے وچ صرف جھوٹ ای پیا جاندا اے۔ او جاندا اے تے او ایویں بیان کردا پیا اے  
پئی او اپنیاں دلاں دے وچ اوہناں دے خلاف شرارت دے منصوبے بھدے رہندے نے  
جنناں دی وجہ توں اوہناں نوں خوف اے پئی او کتے اپنیاں راہواں توں بھٹک نہ جاوے۔ تے  
او آکھدا اے پئی اوہناں دا گلا کھلی قبر اے۔ جے اسی نوں عہد نامے دے وچوں ویکھئے تے  
رومیوں ۳ باب دی ۱۳ آیت دے وچ ایویں لکھیا ہويا اے پئی :

اوہناں دا گلا کھلی ہوئی قبر اے

اوہناں نے اپنیاں زباناں توں فریب دتا اے

ایتھے سانوں جیہڑا بیان ملدا اے ایہدا مُدھ ایس ای باب دی ۱۰ ویں آیت توں ہندا اے تے  
ایہہ ایس باب دی ۱۸ ویں آیت تیکر پیا جاندا اے۔ ایہہ ایتھے یہودی راہنماواں دے تعلق  
دے نال گل بات ہندی پئی اے جیہڑے اصل دے وچ اپنے ای بادشاہ دے خلاف بُرائی دا  
منصوبہ بناوندے پئے نے۔

دسویں آیت دے وچ ایویں لکھیا ہويا اے :

اے خُدا تُو اوہناں نوں مجرم ٹھہرا

او اپنیاں ای مشوریاں توں تباہ ہو

اوہناں نوں اوہناں دیاں پاپاں دی کثرت دی وجہ توں خارج کردے

کیوں جے اوہناں نے تیرے توں سرکشی کیتی اے۔

یاد رکھو پئی اپنیاں پیسہریاں راہواں توں باز آو ایویں نہ ہوئے پئی خُدا تہاڈ عدالت کرے تے او  
تہانوں مجرم ٹھہرائے۔ شریراں نوں اپنیاں پاپاں دی وجہ توں اپنی ابدیت ہلاکت دے وچ  
لسنگاونی پونے گی۔ خُدا کسے دی ہلاکت نہیں چاہندا اے سگوں او چاہندا اے پئی ہر کسے دی  
توبہ تیکر نوبت پہنچے تے ہر کوئی اوس ہمیشہ دی ہلاکت توں بچ جاوے۔

زبور نویس ایس دسویں آیت دے وچ خُدا توں ایوی منت کردا اے پئی اے خُدا! تُو شریر دی  
عدالت کرتے اوہنوں مجرم ٹھہرا۔ تے او منصوبے جیہڑے او میرے خلاف بناوندے پئے نے  
او آپ ای اوہناں دے وچ پھسن تے او آپ ای اوہناں دی وجہ توں تباہ تے برباد ہو جاون۔  
او ایس زبور دے وچ خُدا توں بہت ساریاں گلاں نوں یاد کرواندا اے۔ او خُدا نوں آکھدا اے  
پئی خُداوند تُو ایویں دا اے، تُو ایویں دیاں لوکاں نوں پسند نہیں کردا ایں، تُو رحم کرنا پسند  
کردا ایں، ایہہ لوک ایویں دے نے، تُو ایہناں دی عدالت کر، ایہہ شرارت کرن والے لوک  
نے ایس لئی تُو ایہناں دی عدالت کرتے ایہناں دے نال ایویں دا سلوک کر۔

او اتھے اوہناں دے لئی رحم نہیں منگدا اے سگوں او اوہناں دے لئی خُدا توں عدالت کرن  
دے لئی آکھدا پیا اے۔ او آکھدا اے پئی او آپ ای اپنیاں بنائیاں ہوئیاں منصوبیاں دے وچ  
پھس جاون۔ جیہڑے پھندے اوہناں نے دو جیاں دے لئی لگائے نے او آپ ای اوہناں دے  
وچ پھس جاون۔ ایس آیت دے اخیر حصے دے وچ او خُدا نوں آکھدا اے پئی تُو اوہناں نوں  
اوہناں دیاں پاپاں دی کثرت دی وجہ توں خارج کردے۔ جمدی وجہ او خُدا دے اگے ایویں بیان

کردا اے پئی کیوں جے اوہناں نے تیرے توں سرکشی کیتی اے۔ او خُدا نوں آکھدا اے پئی  
 ایہہ خُدا ایہہ او لوکی نے جیہڑے تیرے وفادار نہیں تے ایہہ تیریاں راہواں دے اُتے نہیں  
 رُدے نے سگوں ایہہ تے تیرے خلاف باغی نے۔ عام طور تے سانوں ایس زبور دے وچ خُدا  
 دے بندے دے ولوں لوکاں دے عدالت دے بارے پڑھن نوں ملدا اے۔ تے ایس گل دی  
 آگاہی ملدی اے پئی ایس توں پہلاں پئی عدالت دا کم شروع ہوئے تسی اپنیاں پیہڑیاں  
 راہواں توں باز آوتے خُدا دے ول نوں دھیان کرو۔ جیہڑا پئی خُداوند یسوع مسیح دی آمد دے  
 بارے دے وچ کجھ اشارہ کردا پیا اے۔ اپنیاں اپنیاں راہواں نوں پچھانوں تے اوہناں نوں  
 ٹھیک کرو تاں پئی تہانوں پچھتانا نہ پوئے۔ کجھ زبوراں دے وچ سانوں خُدا دے بندے دے  
 الفاظ ایویں وی ملدے نے پئی اے خُداوند تُو مینوں جاندا ایں تے تینوں پتہ اے پئی میں تیرا  
 خادم آں۔ تُو میری عدالت کرتے ویکھ پئی میں ایویں نہیں کیتا اے۔ او آکھدا اے پئی جے  
 میں ایویں کیتا اے تے مینوں سزا دے تے جے میں ایویں نہیں کیتا اے تے مینوں رہائی  
 دے۔ میں جاندا آں پئی تینوں بدی توں نفرت اے تے تُو شرارت نوں پسند نہیں کردا  
 ایں۔ ایس لئی میں تیریاں حکماں نوں منندیاں ہوئیاں اپنے آپ نوں بدی توں ڈکیا ہویا اے۔  
 اسی جاندے آں پئی بدی کسے وی طور تے تعمیر نہیں ہو سکدی اے تے شریر ہمیشہ تخریب  
 کاری دا سبب بندے نے۔ خُدا کسے وی ایویں دے بندے نوں پسند نہیں کردا اے جیہڑا  
 دو جیاں دے لئی غیر تعمیری سوچ رکھدا ہوئے۔ جدوں وی تسی دو جیاں دے بارے دے وچ

سوچنا شروع کرتے سب توں پہلاں ایہنوں اپنے آپ توں شروع کرتے دیکھو پئی تسی  
کتھوں تیکر خُدا دے وچ قائم او۔ تسی کتھوں تیکر اپنی جیاتی دے وچوں خُدا دی مرضی نوں  
پُورا کردے پئے او۔ کئی تسی اپنے خاندان تے اپنیاں آسے پاسے دیاں لوکاں دے لئی برکت دا  
سبب ہو؟ کیہ تہاڈے وسیلے دے نال لوکی خُدا تیکر رسائی حاصل کردے پئے نے؟ کیہہ  
تہاڈی جیاتی دے وچوں خُدا دی مرضی پوری ہندی پئی اے؟  
اتھے اسی ایس گل دے اُتے دھیان کردے پئے آں پئی خُدا دا بندہ شریراں دی عدالت کرن  
نوں اکھدا پیا اے۔

پر جدوں اسی گیارہویں آیت دے وچوں دیکھدے آں تے اتھے سانوں ایہدے توں اُلٹ  
حالات دیکھن نوں ملدے نے۔ او اسی آیت نوں پڑھدے آں:  
پر او سارے جیہڑے تیرے اُتے بھروسہ رکھدے نے شادمان ہون۔  
اوسدا خوشی دے نال للکارن کیوں جے تُو اوہناں دی حمایت کردا ایں  
تے او سارے جیہڑے تیرے نال توں محبت رکھدے نے او تیرے وچ شاد رہن۔  
تے فیر اخیر آیت دے وچ ایویں لکھیا ہویا اے:

کیوں جے تُو صادق نوں برکت دیویں گا  
اے خُداوند! تُو اوہنوں کرم دے نال سپردی طرح ڈھک لیویں گا۔

ایتھے سانوں خوشی دا ذکر بلدا اے پر ایہہ صرف اوہناں لوکاں دے بارے ای آکھی گئی اے  
جہناں نوں خُدا دے ولوں تحفظ حاصل اے۔ شریراں دے بارے دے وچ سانوں خوشی دا کوئی  
ذکر نہیں بلدا اے۔ سگوں ایہدے اُلٹ لکھیا ہویا اے پئی خُداوند تُو اوہناں دی عدالت کر  
تے اوہناں نوں مجرم ٹھہرا۔ شریراں دی خوشی ابدی نہیں اے تے اوہدے وچ خُدا دے ولوں  
پائیداری شامل نہیں اے۔

شادمانی توں مراد ایتھے ایہہ نہیں اے پئی شریر ایہدے توں محروم نے سگوں اک راستباز  
بندے دے لئی خُدا دے ولوں ایہہ اوہدی محافظت دے ول نوں اشارہ کردی اے۔ خُدا شریر  
نوں تحفظ فراہم نہیں کردا اے تے اوہدیاں ویریاں دے مقابلے دے وچ اوہناں دی کمک  
نہیں کردا اے۔ صادق ایس گل دی بدولت خُدا دے وچ خوشی مناوئدا اے کیوں کہ خُدا  
اوہنوں اوہدیاں ساریاں ویریاں توں بچاوند اے۔ زبور نویس بیان کردا اے پئی خُدا اوہنوں اپے  
کرم دے نال سپر دی طرح ڈھک لوئے گا۔ او خُدا دی اپنیاں لوکاں دے لئی محافظت نوں  
ایویں بیان کردا اے پئی خُدا اپنیاں لوکاں نوں ایویں محفوظ رکھدا اے جیویں مرغی اپنیاں  
بچیاں نوں اپنیاں پراں دے ہٹھاں لکا لیندی اے اوویں ای خُدا وی اپنیاں لوکاں نوں اپنی  
پناہ دے وچ رکھدا اے۔ جدوں کوئی شکاری پرندہ یا کوئی جانور مرغی دیاں بچیاں دے اُتے حملہ  
کردا اے تے او نس کے اپنی ماں دے کول آجاندے نے تے او اپنیاں پراں نوں کھول  
دیندی اے تاں پئی اوہدے بچے اوہناں دے ہٹھاں لگ جاوے۔ او اپنی ماں دیاں کھمباں ہٹھاں

اپنے آپ نوں محفوظ خیال کردے نے۔ ایویں ایس خوبصورت مثال نوں بیان کردیاں ہوئیاں  
خُدا دی محبت نوں بیان کیتا جاندا اے۔

تے فیر اخیری آیت دے وچ ایویں لکھیا ہويا اے پئی:

کیوں جے تُو صادق نوں برکت دیویں گا

اے خُداوند! تُو اوہنوں کرم دے نال سپر دی طرح ڈھک لیویں گا۔

خُداوند اپنے طالب نوں اپنیاں برکتاں دے نال نوازدا اے۔ ایس آیت دے اخیری حصے دے  
وچ لکھیا ہويا اے پئی خُداوند اپنے خادم نوں اپنے کرم دے نال سپر دی طرح ڈھک لوئے گا۔  
جدوں لوکی جنگ دے لئی جاندا سن تے اوہدے جنگی لباس دے وچوں اک اہم شے داناں  
سپر ہندا سی۔ ایہہ اک طرح دی چمڑے دے نال بنی ہوئی چادر ہندی سی جنہوں اک سورما یا  
جنگی مرد اپنے جسم دے اُتے پالیندا سی۔ تے جدوں اوہدا ویری اوہدے اُتے تلوار دے نال وار  
کردا سی تے او اوہدے اُتے اثر نہیں کردی سی۔ ایویں او اپنیاں ویریاں دے حملے توں محفوظ  
رہندے سن۔

خُداوند اپنیاں لوکاں دی ڈھال تے سپر اے۔ جیویں مُرغی اپنیاں بچیاں نوں اپنیاں کھمباں  
دے پٹھاں لکا لیندی اے ایویں ای خُدا اپنیاں لوکاں نوں لکا لیندا اے۔ ایویں ای خُدا  
اپنیاں لوکاں نوں اپنے کرم دے نال سپر دی طرح ڈھک لوئے گا۔ ایس لئی ہمیشہ ایس گل  
نوں یاد رکھو تے ہمیشہ خُدا دی ڈھال تے اوہدی سپر دی پٹھاں اپنی جیاتی نوں بسر کرو۔

اوہدے وچ جیاتی لہنگاوندیاں ہوئیاں سانوں خوشی حاصل ہندی اے تے خوشی دا بڑا سوہنا  
اظہار گاوندیاں ہوئیاں وی کیتا جاندا اے۔ بہت سارے لوکی جدوں خوش ہندے نے تے او  
گانے گاوندے نے۔ میں ذاتی طور تے جدوں بہت ای خوش ہندا آں تے میں زبور گاوند  
آں۔

زبور ۵ دے وچ اسی ویکھدے آں پئی ایہہ صرف دُعا ای نہیں اے جہنوں اسی پرستش دے  
وچ خُدا دے حضور دے وچ پیش کردے آں سگوں ایہہ اک آئینہ اے جہدے وچ اسی  
انسانیت نوں خُدا دے بغیر ویکھ سکدے آں۔ ایویں اسی ایس گل دا اندازہ کرسکدے آں پئی  
جے خُدا دے ولوں تحفظ نہ ہوئے تے انساناں دا کیہ حال ہوئے گا۔ تے اسی ویکھدے آں پئی  
جدوں انسان خُدا دے بغیر اپنی جیاتی بسر کردا اے تے اوہدے بارے دے وچ ایویں لکھیا ہویا  
اے:

کیوں جے اوہناں دے مُنہ دے وچ ذرہ سچائی نہیں اے

اوہناں دے من دے وچ صرف شرارت اے

اوہناں دا گلا کھلی ہوئی قبر اے

او اپنی زبان توں خوشامد کردے نے

ایہہ اوہناں لوکاں دے وچ پائیاں جاوَن والیاں خُوبیاں نے جیہڑے خُدا توں بغیر اپنی جیاتی  
بسر کردے نے۔ اوہناں دیاں گلاں دے وچ پاپ پایا جاندا اے۔ تے ایہہ نہ صرف خُدا دی نظر

دے وچ اک گھنونا پاپ سی سگوں ایہہ انسانیت دے لئی وی تکلیف دا سبب سی۔ ایس لئی اسی  
 جدوں نویں عہد نامے دے وچ زبوراں دا مطالعہ کردے آں تے ایہہ صرف خُدا دے حضور  
 دے وچ دُعا ای نہیں اے سگوں ایہناں نوں ورتدیاں ہوئیاں اسی اپنے آپ نوں پرکھ وی  
 سکدے آں۔ تے ایویں اسی ایہناں نوں اوس ویلے وی جدوں اسی اپنیاں ویریاں دی وجہ توں  
 مُصیبت دا شکار ہندے آں رہائی تے نجات دے لئی وی ورتدے آں۔ تے میں اک گل کرنا  
 چاہندا آں پئی کئی واری اسی آپ اپنے سب توں وڈے ویری ہندے آں۔ بہت ساریاں  
 مسئلیاں تے مُشکلاں دے آون دی وجہ اسی آپ ای ہندے آں۔ کئی واری اسی جانڈیاں  
 ہوئیاں وی کجھ غلط کماں نوں کردے آں۔ ایس لئی میں بہت واری خُدا توں منت کردا آں پئی  
 تُو میری مدد کر پئی میں ایہنوں نہ کراں۔ تُو میری مدد کر پئی میں اپنی جیاتی دے وچ صرف  
 اوہناں کماں نوں کراں جنہاں دے وچ تیری مرضی شامل ہوئے۔ بھویں جے اسی اپنے آپ  
 نوں ہر طرح دے نال کامل نہیں پاسکدے آں پر اسی اپنے آپ نوں جان سکدے آں۔ تے  
 میں جدوں وی چنے وی مُشکل حالات دے وچ ہندا آں میں خُدا توں ای منت کردا آں تے  
 او مینوں جواب دیندا اے۔ خُدا میری مدد کردا اے تے مینوں بار نکلیں دا راہ دکھاند اے۔  
 او میرے ذہن دے وچ اوہناں ساریاں گلاں نوں پادیندا اے جنہاں دے بارے دے وچ  
 میں اپنی سمجھ دے نال خیال نہیں کرپاؤندا آں۔

ہمیشہ ایس گل نوں یاد رکھو پئی خُدا دی ڈھال تے اوہدی سپر دے بیٹھاں اپنی جیاتی نوں بسر  
 کرو۔ ایویں کردیاں ہوئیاں تھانوں کدی وی اپنی محافظت دے بارے دے وچ پریشان نہیں  
 ہونا پوئے گا۔ سگوں ایہدے اُلٹ تھی خُداوند دے وچ خوشی تے شادمانی دی جیاتی بسر کرو  
 گے تے ایہہ خوشی تے شادمانی ابدی ہوئے گی۔ بھویں جے تھی اپنیاں ویریاں دے بارے دے  
 وچ وی پیہڑا نہیں چاہندے ہووئے گے تے تھی ایہہ نہیں چاہندے ہووئے گے پئی اوہناں نوں  
 برباد کر دتا جاوئے۔ تاں وی تھانوں اوہناں دے ولوں مخالفت دا سامنا ہندا اے تے ایہہ ای  
 فرق اے جیہڑا اوہناں تے خُدا دیاں لوکاں دے وچ پایا جاندا اے۔

ایس زبور دے وچ اسی ویکھدے آں پئی خُدا دا بندہ اپنیاں ویریاں دے لئی خُدا توں بربادی  
 منگدا اے تے چاہندا اے پئی خُدا اوہناں دی عدالت کرے تے اوہناں نوں سزا دیوئے۔ پر  
 جدوں اسی خُداوند یسوع مسیح دے وچ ہندے آں تے اوہناں تبدیل کردا اے۔ تے اسی  
 ایس زبور دی ۱۰ تے ۱۱ آیت دے وچوں ویکھدے آں پئی دسویں آیت دے وچ اوہناں نوں  
 گناہگار ثابت کیتا جاندا اے تے فیر گیارہویں آیت دے وچ اوہناں دے بارے وچ گل کیتی  
 گئی اے جیہڑے خُدا دے وچ پناہ لیندے نے۔ اسی سارے ایس توں پہلاں ویریاں دے وچ  
 ای گئے جاندے سی۔ پر اسی ویکھدے آں پئی خُدا دے پتر ساڈے خُداوند یسوع مسیح دی  
 رائیں اسی سارے دھوئے تے پاک کیتے گئے آں۔ سانوں اوہدے وہڈے فضل دی وجہ توں رہائی  
 تے آزادی ملی اے۔ تے سب توں اہم تے وہڈی گل ایہہ ہے پئی اوہنے ایہہ سانوں بالکل

مُفت عطا کیتی اے۔ اوہنے ایہدی کوئی قیمت نہیں ٹھہرائی اے یا ایویں نہیں آکھیا اے پئی  
ٹھانوں فُلاں فُلاں کم نوں کرنا پوئے گا تاں پئی تھی مگتی پاسکو۔ سگوں اوہنے ایہنوں ہر اک  
دے لئی مُفت فراہم کیتا اے تاں پئی ہر کوئی ایہنوں پاسکے تے ایس ہمیشہ دی جیاتی دے وچ  
داخل ہو سکے۔ اوہنے ساڈے لئی ایس وڈے بوہے نوں کھول دتا اے تاں پئی ہر کوئی ایہدے  
وچ بلا روک ٹوک آوئے تے داخل ہو جاوئے۔ آو اسی آج دی ساری گل ات نوں اتھے ای  
مُکاوندے آں تے خُدا دا شکر ادا کر دیاں ہوئیاں اوہدے توں اپنے لئی مدد منگدے آں۔ آو اسی  
دُعا کریئے:

خُداوند ساڈے آسمانی باپ اسی تہہ دل توں تیرا شکر ادا کردے آں ایس سوہنی آزادی دے لئی  
جیہڑی اسی تیرے وچ رکھدے آں۔ ایس پناہ تے تحفظ دے لئی پئی تُو سانوں اپنے کرم دے  
نال سپر دی طرح ڈھک لیویں گا۔ تیرا شکر ادا کردے آں پئی تُو ساڈی سپر، ساڈی پناہ تے  
ساڈی ڈھال ایں تے ایس گل دے لئی پئی تُو سانوں اپنیاں پراں دے ہٹھاں لکا لیندا ایں تاں  
پئی سانوں محفوظ رکھیں۔ اسی اپنیاں جیاتیاں دے وچ تیری شمولیت تے ایس رسائی دے لئی  
تیرا شکر ادا کردے آں۔ خُداوند اسی آون والے سارے ویلے دے لئی تیرے توں منگدے آں  
پئی بخش اسی اپنیاں ساریاں ویریاں نوں دل توں مُعاف کر سکئیے تے تیری مرضی نوں اپنی  
جیاتی دی رائیں پورا کریئے۔ سانوں سکھا پئی اسی تیرے توں ای منگئیے تے جیویں اسی آج  
دے زبور دے وچوں سکھیا اے اسی تیرے وچ ای شادمانی حاصل کریئے تے تیری پناہ دے

وچ سٹھے۔ ایہناں ساریاں لوکاں دے لئی میں تیرا شکر ادا کردا آں جیہڑے ایس ویلے ساڈے  
نال ہین۔ میں تیرے توں منت کرداں پئی تُو ایہناں اپنے ناں دی خاطر برکت دے تے اپنے  
جلال دے لئی ورت۔ بخش پئی اسی تیری سیوا کردیاں ہوئیاں تیرے سوہنے پتر دی پیروی  
کریے۔ اسی ایہہ سارا کجھ اوہدا ای ناں لیندیاں ہوئیاں منگدے آں آمین۔

جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مزامیر کی کتاب میں سے کچھ زبوروں کے تعلق سے بات چیت کر رہے ہیں اور آج بھی ہم اسی بات چیت کو ہی آگے بڑھائیں گے۔ تو آئیے ہم دُعا کرتے ہوئے اس ساری بات چیت کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔

خداوند مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ ہم آج کے اس وقت کے لئے تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم آج پھر مل کر تیرے حضور میں جمع ہیں تاکہ تجھ سے تیرے پاک کلام پر دھیان کر سکیں۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی حضوری میں خوش آمدید کہتا ہے۔ بخشش کہ ہم تیرے چہرے کے نور کے مُتلاشی رہیں اور تیرے دل کی سچائیوں کو جان سکیں۔ اپنے پاک کلام کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لئے فہم عطا کر۔ بخشش کہ ہم اُس بیش قیمت فدیہ کو پہچان سکیں جو تو نے ہمیں ہمارے گناہوں سے ہمیں رہائی دیتے ہوئے عطا کیا ہے۔ تیرے پیار اور تیرے کلام میں قوت پائی جاتی ہے جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کی قُدرت رکھتی ہے۔ تیرے پاک کلام کے لئے تمہ دل سے شکر گزار ہیں جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگیوں کو بسر کرنا چاہئے۔ ہم اس خوبصورت موقع کے لئے تیرے شکر گزار ہیں اور تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں برکت دے۔ ہم یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہوئے مانگتے ہیں آمین۔

ہم کچھ عرصہ سے مزامیر کے تعلق سے بات چیت کر رہے ہیں اور ابھی اس وقت ہم پانچویں زبور کے بارے میں بات کرنے کو ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں گزشتہ بیان کردہ مزامیر کے تعلق سے کچھ یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں۔

سب سے پہلے ہم نے پہلے زبور پر غور کیا تھا جو کہ ایک مبارک شخص کے بارے میں بیان کرتا ہے جسے بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسے درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہو۔ یہ پانی کی ندیاں اُس میں ہمیشہ تک قائم رہنے والے زندگی کی عکاسی کرتی ہیں۔ اُس کی بنیاد مضبوط ہے اور وہ اپنے وقت پر پھل دیتے ہوئے اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہے۔ یوں ایک ایسی زندگی بسر کرتے ہوئے آپ خُدا کے پیار اور اُس کے فضل میں بڑھتے جاتے ہیں۔ آپ کے افزائش بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ آپ کے پھلدار ہونے کی ضمانت ہے۔ آپ خُدا کے کلام اور اُس کے فضل میں مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتے ہیں اور اُس میں بڑھتے جاتے ہیں۔ یوں پہلا زبور خُدا میں قائم شخص کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص خُداوند میں قائم ہے تو اُس کی زندگی کس قدر بھرپور دکھائی دے گی۔

اس کے بعد ہم نے دوسرے زبور پر بات کی تھی اور اُس میں ہمیں خُدا کی بادشاہت کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم زبور ہے جس میں خُدا کے بیٹے مسیح کا ذکر پڑھنے کو ملتا ہے۔ جس میں لکھا ہے کہ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مُقدس پر بٹھا چکا ہوں۔ اس میں خُدا اور اُس کے مسیح کا بیان پایا جاتا ہے اور خُدا کی جانب سے لوگوں کی عدالت کے بارے میں بھی ہم

اس میں سے دیکھتے ہیں۔ پہلے زبور میں ہم نے خُدا کی جانب سے ایک مُبارک شخص کو عطا کردہ اندورنی زندگی پر غور کیا تھا اور دوسرے زبور میں ہم خُدا کے اختیار کی بابت غور کرتے ہیں۔ اس زمین پر ہر ایک شخص جو کچھ اختیار رکھتا ہے وہ خُدا کے اختیار تلے ہے اور خُدا اُسے دیکھتا ہے۔

اس کے بعد ہم نے آگے بڑھتے ہوئے تیسرے زبور پر بات کی تھی۔ جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ داؤد اپنے بیٹے ابی سلوم کی وجہ سے اپنا شہر اور تخت چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ اُسے ایک بڑی مُصیبت کا سامنا ہوتا ہے اور وہ خُدا سے مدد کی درخواست کرتا ہے۔ یوں اس تیسرے زبور میں ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ اگرچہ ہم بہت زیادہ خطرناک صورتِ حال میں گرفتہ ہوں خُدا ہمیں بحال کرنے کی قُدرت رکھتا ہے۔ ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں اور اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ گناہگار ہیں۔ لیکن بہت بڑی تسلی کی بات یہ ہے کہ خُدا ابھی بھی ہمارے زندگیوں میں شامل ہونے اور ہمیں تبدیل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، یوں وہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔

جب ہم چوتھے زبور کی جانب بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مُشکل میں مُبتلا ہوتے ہیں اور ہم کوئی نہ گناہ نہیں کیا ہوتا ہے لیکن ہمیں لوگوں کی جانب سے مختلف الزامات کا سامنا ہوتا ہے کہ ہم نے ضرور گناہ کیا ہے جس کی سزا میں ہمیں اس مُشکل کا سامنا ہے۔ لیکن درحقیقت ہمارے اوپر آنے والی مُشکل یا مُصیبت کا تعلق

ہمارے گناہ یا خطا کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ اس کے پس پردہ خدا کا کچھ اور مقصد ہوتا ہے اور وہ ان حالات میں بھی ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن لوگ اس بات کو سمجھے بغیر ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ ہم خطاکار ہیں اور ہم نے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے اور اسی لئے ہمیں اس سزا کا سامنا ہے۔ لیکن زبور نویس انہیں جواب دینے کی بجائے خدا سے اپنی تمام درخواستوں کو پیش کرتا ہے اور اُس سے مدد کے لئے منت کرتا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہے جو اُسے ستاتے ہیں اور اُسے بے جا دکھ دیتے ہیں۔ وہ اپنا بھروسہ خدا پر رکھتا ہے اور اپنی کمک کے لئے اُسے پکارتا ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اُس کی کمک اب نہ ہوگی۔ لیکن جب وہ خداوند اپنے خدا سے تسلی پاتا ہے تو وہ اپنے اندر پائے جانے والے اُس الہی اطمینان کا اظہار کرتا ہے اور اُن لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے جو اُس کے خلاف بولتے ہیں۔ وہ خداوند اپنے خدا پر اپنے کامل توکل کا اظہار کرتا ہے۔ اس زبور میں پائے جانے والے الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اور اس سے گزشتہ زبور میں ایک جیسی صورت حال پائی جاتی ہے۔ لیکن اہم بات یہ ملتی ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات میں اپنا توکل خداوند اپنے خدا پر رکھتا ہے۔

تو ابھی وقت ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنی راہنمائی کے لئے اگلے زبور یعنی پانچویں زبور کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ خدا اس زبور میں کس طرح سے ہماری راہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ تو میں آپ کے لئے اس خوبصورت زبور کے عبرانی ترجمے کو بھی پیش کرونگا تاکہ ہم اُن الفاظ

کو بہتر طور پر جان سکیں جن پر خاص طور پر زور دیا گیا۔ اور ہم نے جانا تھا کہ عبرانی زبان میں جب ہم کسے عبارت کو پڑھتے ہیں تو اُس میں ہمیں الفاظ کی ترتیب دوسری زبانوں سے کچھ مختلف دکھائی دیتی ہے۔ ہم نے غور کیا تھا کہ عبرانی زبان میں اس کا مطالعہ کرنے سے ہمیں اُن الفاظ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے جن پر اس زبور کی آیات میں خاص طور پر زور دیا گیا ہے اور کون سی باتیں ہیں جنہیں احکات کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ تو آج بھی ہم اپنی راہنمائی کے لئے اس زبور پر غور کریں گے اور سیکھیں گے۔ تو آئیے ہم باقاعدہ طور پر اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو خداوند کے پاک کلام میں زبور پانچ میں یوں لکھا ہوا ہے:

میرے مغنی کے لئے بانسلیوں کے ساتھ داؤد کا مزمو

اے خداوند میری باتوں پر کان لگا!

میری آہوں پر توجہ کر!

اے میرے بادشاہ! اے میرے خدا! میری فریاد کی طرف متوجہ ہو۔

کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔

اے خداوند! تو صبح کو میری آواز سنیگا

میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کرونگا

کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو

بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی

گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہونگے

تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے

تُو اُنکو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا

خداوند کو خُونخوار اور دغا باز آدمی سے کراہیت ہے۔

لیکن میں تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤنگا۔

میں تیرا رعب مان کر تیری مُقدس ہیکل کی طرف رُخ کر کے سجدہ کرونگا۔

اے خداوند! میرے دُشمنوں کے سبب سے مجھے اپنی صداقت میں چلا۔

میرے آگے آگے اپنی راہ کو صاف کر دے

کیونکہ اُن کے مُنہ میں ذرہ سچائی نہیں۔

اُنکا باطن محض شرارت ہے۔

اُنکا گلا کھلی قبر ہے۔

وہ اپنی زبان سے خُشامد کرتے ہیں۔

اے خدا تو اُن کو مجرم ٹھہرا

وہ اپنے ہی مشوروں سے تباہ ہوں

اُن کو اُن کے گُناہوں کی کثرت کے سبب سے خارج کر دے

کیونکہ اُنہوں نے تجھ سے سرکشی کی ہے۔

لیکن وہ سب جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شادمان ہوں۔  
وہ سدا خوشی سے للکاریں کیونکہ تو اُن کی حمایت کرتا ہے  
اور جو تیرے نام سے مُجبت رکھتے ہیں تجھ میں شاد رہیں  
کیونکہ تو صادق کو برکت بخشے گا۔  
اے خُداوند! تو اُسے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لے گا۔

خُداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سُنے جانے پر اُس کی برکت ہو۔ خُداوند کا شکر ہو۔  
ہم حسب معمول اس زبور کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حصے پر غور کریں گے۔ آئیے ہم  
سب سے پہلے ابتدائی تین آیات پر غور کرتے ہیں جہاں پر یوں لکھا ہوا ہے:

اے خُداوند میری باتوں پر کان لگا!

میری آہوں پر توجہ کر!

اے میرے بادشاہ! اے میرے خُدا! میری فریاد کی طرف متوجہ ہو۔

کیونکہ میں تجھ ہی سے دُعا کرتا ہوں۔

اے خُداوند! تو صُبح کو میری آواز سُنیگا

میں سویرے ہی تجھ سے دُعا کر کے انتظار کرونگا

ان آیات میں ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ زبور نویس دُکھ کی حالت میں ہے اور اُس کے الفاظ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اُس کا دُکھ بڑا ہے۔ وہ آپیں بھر بھر کر خُدا کے سامنے اپنی التجا کو پیش کر رہا ہے۔ وہ اپنے غم کے باعث ہو اس باختہ دِکھائی دیتا ہے اور عام طور پر اس طرح کے حالات میں ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی ہے کہ ہم کیا کہیں اور کس طرح سے اپنی دُکھ کو بیان کریں۔ لیکن ایک بات جو ہم کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں کہ ہم خُدا کے سامنے رو سکتے ہیں ہم خُدا کے سامنے کراہتے ہوئے اور چلاتے ہوئے اپنی درخواستوں کو پیش کر سکتے ہیں۔ کیونکہ خُدا ہماری حالت کو جانتا ہے اور اُسے معلوم ہے کہ ہمارا دُکھ کتنا بڑا ہے۔ یہ ہی وجہ ہے کہ زبور نویس خُدا سے کہتا ہے اے خُدا میری باتوں پر کان لگا، وہ خُدا کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری آہوں پر توجہ کر۔

اور پھر دوسری آیت میں ہمیں بادشاہ یعنی ملک اور خُدا یعنی لیلوہیم کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس پر بہت دفعہ غور کیا ہے اور ہم نے مختلف مضامین میں ملکِ صدق اور خُدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے لیلوہیم کا ذکر سنا تھا۔ پرانے عہد نامے میں خُدا کے بارے میں ہمیں یہوواہ نام کا ذکر ملتا ہے جو کہ خُدا کا بہت ہی مُقدس نام ہے۔ خُدا نے اپنے آپ کو موسیٰ پر اسی نام سے ظاہر کیا تھا اور یوں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ یہوواہ خُدا کا ذاتی نام ہے۔ جب بھی ہم خُدا کو اُس کے اس ذاتی نام یہوواہ سے پُکارتے ہیں تو ہم اُسے یہ یاد دلاتے ہیں کہ خُدا نے ہمارے ساتھ ایک عہد باندھا ہوا ہے۔ اُس نے ہمارے ساتھ ایک ابدی عہد

باندھا ہے۔ یوں جب بھی ہم خُدا کو اُس کے ذاتی نام یہوواہ سے پُکارتے ہیں تو ہم اُسے اِس بات کو یاد دلاتے ہیں کہ اے خُدا ہم تیرے لوگ ہیں اور اپنے اُس عہد کی بدولت تُو ہمیں اپنی عجیب قُدرت کے ذریعے بچا۔

یوں یہ خُدا کا بہت ہی مُقدس اور ذاتی نام ہے لیکن جب ہم خُدا کو بطور لیلوہیم پُکارتے ہیں تو ہم اُسے بطور مُنصف، بادشاہ یا حاکم پُکارتے ہیں یوں لیلوہیم خُدا کا خطاب ہے۔ اور اِسی طرح سے جب ہم انگریزی لفظ لارڈ استعمال کرتے ہیں جس کا پہلا حرف یعنی ایل بڑا ہوتا ہے تو اِس سے مُراد ایڈونائی یعنی مالک ہے جسے خُداوند کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ایشع کا خادم اُسے پُکارتا تھا تو وہ اُس کے لئے لفظ ایڈونائی استعمال کرتا تھا یعنی وہ اُسے خُداوند کہتا تھا۔ اِس کے علاوہ ہمیں پُرانے عہد نامے میں سے بے شمار بار یہوواہ کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہ مالک اور ہمارا خُداوند بھی ہے۔ زبور نویس خُداوند کے حضور اپنی فریاد کو پیش کرتے ہوئے مختلف الفاظ کو استعمال کرتا ہے وہ اُسے بادشاہ، خُداوند، یہوواہ اپنا مالک کہہ کر پُکارتا ہے۔ عبرانی میں ہمیں ملکِ صدق کا ذکر ملتا ہے جس کا ترجمہ راستبازی کا بادشاہ ہے اور پھر لیلوہیم حُکمرانی کے معنوں میں آتا ہے۔

زبور نویس یہاں پر خُدا کے ساتھ اپنے ذاتی تعلق کو بیان کرتا ہے۔ وہ یہاں اِس طرح نہیں کہتا ہے کہ اے ہمارے خُدا! اے ہمارے بادشاہ!

بلکہ وہ یہاں پر کہتا ہے کہ اے میرے خُدا! اے میرے بادشاہ!

اس سے مراد وہ خدا کو اپنا مالک اپنا بادشاہ بیان کرتا ہے۔ وہ اُس کی حاکمیت کا اقرار کرتا ہے اور اُس حاکم کے سامنے اپنی فریاد پیش کرتا ہے اور منت کرتا ہے کہ میری آہوں پر توجہ کر۔ وہ اُس سے اپنی ساری صورت حال میں مدد کا خواہاں ہے۔ میں اپنی ذاتی دُعا میں خدا سے بات کرتے ہوئے اُس سے کہتا ہوں کہ خداوند تُو مجھے ہر طرف سے سنبھال اور میری راہنمائی کر۔ میں اُس کے وعدوں اور اُن کی پاسداری کے لئے اُس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اُس کے بارے میں جانیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم اُس کے پاک کلام میں سے اُس کے عظیم کردار کا مطالعہ کرتے ہوئے اُس کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں۔

دوسری آیت میں وہ کہتا ہے کہ اے خداوند میں صُبح سویرے ہی اُٹھ جاتا ہوں اور تجھے پُکارتا ہوں۔ کیونکہ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ خدا صُبح کو میری آواز کو سُنیگا۔ ہم اپنی ہر ایک صُبح کا آغاز خدا کے نام سے اور اُس سے راہنمائی حاصل کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ ہم صُبح کو ہی خدا کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں اور اُس سے منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے زندگیوں میں یہ کام کر۔ ہمیں اس کام میں جو ہم آج کے دن میں کرنے والے ہیں تیرے راہنمائی اور مدد درکار ہے۔ میں جب شخصی طور پر خدا سے اس طرح کے کسی مسئلے کی بابت دُعا کرتا ہوں تو میں اُس سے کہتا ہوں کہ خداوند مجھے اس سلسلے میں تیری راہنمائی درکار ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سب کچھ میں تیری مرضی پوری ہو۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں

کہ اگر کوئی کام نہیں ہو پاتا ہے تو اس میں خُدا کی جانب سے ضرور بہتری پائی جاتی ہے اور  
میں خوش ہوتا ہے ہوں کہ خُدا نے میری مدد کی اور اُس کی مرضی پوری ہوئی ہے۔

اور پھر چوتھی سے چھٹی آیت میں وہ یوں بیان کرتا ہے کہ:

کیونکہ تُو ایسا خُدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو

بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی

گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہونگے

تُجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے

تُو اُنکو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا

خُداوند کو خُونخوار اور دغا باز آدمی سے کراہیت ہے۔

یوں یہاں پر ہمیں خُدا کی صفات کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ ایک طرح سے خُدا کا تعارف پیش  
کر رہا ہے کہ خُدا کون ہے اور وہ کیسا ہے۔ کون سی باتیں ہیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتا ہے۔  
یہاں پر زبور نویس کے الفاظ سے ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُسے اُن تمام لوگوں کا سامنا  
ہے جن کا ذکر وہ ان چوتھی سے چھٹی آیات میں کرتا ہے۔ وہ شرارت کا ذکر کرتا ہے، وہ بدی  
کرنے والوں کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ بدکاروں کے بارے میں کہتا ہے کہ خُدا انہیں  
پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ جھوٹ بولنے والوں کے متعلق کہتا ہے کہ خُدا انہیں ہلاک کر دے



میں برداشت نہیں کرتا ہے۔ ایک راستباز شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ بدی سے دُور رہے۔  
آپ کی زندگی میں کسی بھی طور سے ایسی کسی بھی بات کی جھلک نظر نہیں آئی چلتے جو خُداوند  
آپ کے خُدا کو پسند نہ ہو۔

ہم اپنی زندگی کے ہر ایک کام میں ہر ایک بات میں خُداوند خُدا سے راہنمائی مانگ سکتے ہیں۔  
ہم اُس سے پوچھ سکتے ہیں کہ خُداوند میں کس طرح سے اس کام کو سرانجام دوں۔ یا کیا  
میرے ایسا کرنے یا اس کام کو سرانجام دینے میں تیری مرضی شامل ہے؟  
جب ہم کسی مُنصف کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ اُس کی  
شخصیت میں راستبازی اور ایمانداری شامل ہوں۔

پانچویں آیت بیان کرتی ہے کہ گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہونگے۔ تُوھے سب بد کرداروں  
سے نفرت ہے۔ خُدا بد کرداروں کی عدالت کرے گا اور اُنہیں ہلاک کرے گا، وہ اُنہیں اپنے  
حضور میں نہیں رہنے دے گا۔ وہ کبھی بھی اُس کے ساتھ اُس کے ابدی جلال میں شامل  
نہیں ہو پائیں گے۔ وہ کتا کہ بد کردار خُدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہونگے لیکن خُدا  
کی ابدی بادشاہی میں داخل ہونگا اور اُس کا جلال دیکھونگا۔ میں جانتا ہوں کہ میں خُدا کی  
بادشاہی میں داخل ہونگا اور خُدا میں ہمیشہ کی زندگی شادمانی کے ساتھ گزارونگا۔ بالکل اسی  
طرح سے آپ میں سے ہر ایک اپنے اور خُدا کے درمیان قائم تعلق کی نوعیت سے آگاہ ہے  
اور جانتا ہے کیا آپ خُدا کے ساتھ اُس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونگے۔ شاید ہم میں سے

کوئی بھی کسی دوسرے کے بارے میں اس تعلق سے کچھ بتانے کے قابل نہ ہو لیکن ہم اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ لیکن میں آپ میں سے کسی کو یہ کہتے ہوئے آرزو نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تو ان میں سے نہیں ہیں جو خدا کی بادشاہی میں شامل نہیں ہونگے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی پر نگاہ کرے کہ کیا میں واقعی اس حالت میں ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کا استقبال بادلوں پر اڑ کر کر سکوں گا؟ اگر نہیں تو مجھے کیا کرنا ہوگا۔

آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اس خوبصورت زبور کی ساتویں آیت پر غور کرتے ہیں جہاں پر یوں لکھا ہوا ہے:

لیکن میں تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤنگا

میں تیرا رعب مان کر تیری مقدس ہیگل کی طرف رخ کر کے سجدہ کرونگا۔

یہاں پر ہمیں ایک ایماندار اور ایک شریر شخص کے تعلق سے کچھ موازنہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ

کہتا ہے کہ شریر عدالت میں کھڑے نہ رہ پائیں گے لیکن میں تیرے گھر میں تیری بیش بہا

رحمت کے باعث آؤنگا۔ وہ کہتا ہے کہ خدا بد کرداروں کو اپنے حضور میں قبول نہیں کرے گا

لیکن وہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اے خداوند تو مجھے اپنے حضور میں قبول فرما کیونکہ میں

راستباز ہوں میں بد کرداروں میں شامل نہیں ہوتا ہوں اس لئے تو میری طرف متوجہ ہو

اور میری منت کی آواز کو سُن لے۔ وہ اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں بھلا ظاہر کرتا ہے۔

وہ اپنے آپ کو جانتا ہے اور اسی لئے وہ ایسا کہتا ہے۔ لیکن اگر ہم شریروں کے تعلق سے غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو شریر نہیں کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل اچھا خیال کرتے ہوں اور کہتے ہوں کہ وہ بھی جو کچھ کرتے ہیں وہ بالکل درست ہے۔

زبور نویس خُدا کے فضل کا خواہشمند ہے وہ خُدا سے رحم کے لئے دُرخواست کرتا ہے۔ وہ اُس سے ایسا کرنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خُدا ایسا کرتا ہے اور وہ اُس کی دُعا کو سُننے ہوئے ایسا کرے گا۔ اِس لئے وہ خُدا کو یاد دِلاتا ہے اور اُس سے رحم اور فضل کے لئے منت کرتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ میں نے اپنے ایمان کی بدولت اِس فضل تک رسائی حاصل کی ہے۔ اور اسی لئے وہ بیان کرتا ہے کہ اُس میں آزادی ہے۔ جیسا کہ پانچویں آیت کے پہلے حصے میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ میں تیری شفقت کی کثرت کے سے تیرے گھر میں آؤنگا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خُدا کے گھر میں ہم اُس کی محبت کو محسوس کرتے ہیں۔ ہم اپنے خوف سے آزادی اور رہائی پاتے ہیں۔

اور پھر آٹھویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ:

اے خُداوند! میرے دُشمنوں کے سبب سے مجھے اپنی راستبازی میں چلا۔

میرے آگے آگے اپنی راہ کو صاف کر دے۔

زبور نويس خُدا سے التجا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے خُداوند میرے دُشمن میرے سامنے کھڑے ہیں تو میری مدد کر اور مجھے اپنی راستبازی میں چلا۔

جب ہم دُشمنوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ دُشمن ہمیشہ اس بات کی ٹوہ میں رہتے ہیں کہ کب اُن کا مُخالف کمزور دکھائی دے اور وہ اُس پر حملہ کرے اور اُسے پسپا کر دے۔ بہت سی حالتوں میں دُشمن راستوں میں میں چھپ کر بھی بیٹھ جاتے ہیں تاکہ جب اُن کے مُخالف وہاں سے گزریں تو وہ اُنہیں ہلاک کر دے۔

خُدا امن کو پسند کرتا ہے اور وہ اپنے لوگوں سے بھی اسی بات کی توقع کرتا ہے۔ خُدا جن کو پسند کرتا ہے وہ اُنہیں امن و امان عطا کرتا ہے۔ وہ اُن کے چاروں طرف کے دُشمنوں سے انہیں اپنی پناہ میں محفوظ رکھتا ہے۔ خُدا امن کو قائم کرنے اور قائم رکھنے والا خُدا ہے۔

زبور نويس اپنی دُشمنوں کی وجہ سے پریشان ہے اور وہ اپنی اس مُشکل کو خُدا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ خُداوند میرے دُشمن میری سب راہوں میں پھندہ لگائے بیٹھے ہیں اور میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ کب مجھ پر آ پڑیں گے۔ میں اُن کے لگائے گئے پھندوں کی وجہ سے بھٹک

جانے سے خوفزدہ ہوں۔ میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو میری مدد کر کہ میں اپنے دُشمنوں کی وجہ سے بھٹک جانے سے محفوظ رہوں۔ بخش کہ میں تیری مدد کے ساتھ سیدھی راہ پر چلتا رہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی کسی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے نقصان اٹھاؤں اور

سیدھی راہ سے بھٹک جاؤں۔ یا ایسا نہ ہو کہ میرے کسے غلط قدم کی وجہ سے میرے دشمنوں کو مجھ پر آواز اٹھانے کا موقع ملے۔

ہماری زندگی میں بے شمار مواقع ایسے آتے ہیں جب ہم ایسے اقدام اٹھاتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لئے کس قدر نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں واضح طور پر علم نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہئے یا نہیں، ایسی حالت میں ہم خداوند سے اپنے لئے راہنمائی مانگ سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں پیش آنے والی بہت سی ناکامیوں کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی بڑی مصیب کا شکار ہو جاتے ہیں تو اکثر غور کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ اُس کے پیچھے ہماری کوئی چھوٹی سی غلطی ہوتی۔ چھوٹی سی لاپرواہی بعض اوقات ہمیں ایک بڑی مشکل کا شکار کر دیتی ہے۔

زبور نویس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اُس کے دشمن بہت زیادہ چالاک ہیں اور وہ نہیں جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے اُسے شکار کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ لیکن خداوند میری مدد کر کہ میں اُن کی وجہ سے اپنی راستبازی کو نہ چھوڑ دوں۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے خداوند تو میرے آگے آگے اپنی راہ کو صاف کر دے۔

وہ جانتا ہے کہ خدا ایسا کر سکتا ہے اسی لئے وہ خدا سے اپنے لئے راہنمائی مانگتا ہے۔ وہ خدا کے پیچھے پیچھے چلنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اُس سے کہتا ہے کہ تو میرے آگے آگے چل اور میرے آگے آگے اپنی راہوں کو سیدھا بنا دے میں تیرے قدموں کے نشانات کی

پیروی کرتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ خُداوند میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے تمام معاملات صاف اور پاکیزہ ہوں۔ وہ خُدا سے چاہتا ہے کہ وہ اُسے پاکیزگی عطا کرے وہ اُسے کسی بھی گناہ کے کرنے سے محفوظ رکھے تاکہ وہ اپنے ہی کسی گناہ کے باعث کسی پریشانی میں مُبتلا نہ ہو جائے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہی کی کئے گئے کام کی وجہ سے مُشکل کا شکار ہو۔ وہ راستبازی کی راہ پر چلتے رہنے کا خواہشمند ہے۔ وہ خُدا سے مدد چاہتا ہے تاکہ وہ کبھی بھی بھٹک نہ جائے۔

آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ۹ آیت میں خُدا کا بندہ یوں بیان کرتا ہے کہ:

کیونکہ اُن کے مُنہ میں ذرہ سچائی نہیں

اُنکا کا باطن محض شرارت ہے

اُنکا گلا کھلی قبر ہے

وہ اپنی زبان سے خوشامد کرتے ہیں۔

ایسے لوگ جو سچ نہیں بولتے ہیں وہ دوسروں کے لئے اور خود اپنے لئے بھی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ سچ کسی بھی زندگی میں برکت کا سبب ہوتا ہے لیکن اس کے برعکس جھوٹ آدمی کو

ہلاکت کی جانب لے جاتا ہے۔ زبور نویس بیان کرتا ہے اُن لوگوں کے بارے میں جن کی

بابت اُسے اس بڑی مُصیبت کا سامنا ہے اور وہ اپنی اس مُصیبت کو خُدا کے سامنے پیش کرتا

ہے۔ وہ اُن کی بابت خُدا سے بیان کرتا ہے کہ اُن کے مُنہ میں ذرہ سچائی نہیں اور اُن کا

باطن محض شرارت ہے۔ وہ جانتا ہے اور بیان کر رہا ہے کہ وہ اپنے دل میں اُس کے خلاف شرارت کے منصوبے بناتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے اُسے خوف ہے کہ وہ اپنی راہ سے بھٹک نہ جائے۔ اور وہ بیان کرتا ہے کہ اُن کا گلا کھلی قبر ہے۔ اگر ہم نئے عہد نامے میں سے رومیوں ۳ باب کی ۱۳ آیت پر غور کریں تو وہاں پر ہمیں یہی حوالہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں رومیوں ۳ باب کی ۱۳ آیت میں یوں لکھا ہے:

اُن کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے

اُنہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا

یہاں پر جو بیان ہمیں ملتا ہے جس کا آغاز اسی باب کی ۱۰ آیت سے ہوتا ہے اور یہ اس باب کی

۱۸ ویں آیت تک پایا جاتا ہے، یہ یہودی راہنماؤں کی تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ جو کہ

درحقیقت اپنے ہی بادشاہ کے خلاف بُرائی کا منصوبہ باندھتے ہیں۔

دسویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے کہ:

اے خدا! تو اُن کو مجرم ٹھہرا۔

وہ اپنے ہی مشوروں سے تباہ ہوں۔

اُن کو اُن کے گناہوں کی کثرت کے سبب سے خارج کر دے

کیونکہ اُنہوں نے تجھ سے سرکشی کی ہے۔

یاد رکھیں کہ اپنی بُری راہوں سے باز آئیں ایسا نہ ہو کہ خُدا آپ کی عدالت کرے اور آپ کو مجرم ٹھہرائے۔ شیروں کو اپنی خطاؤں کی وجہ سے اپنی ابدیت دُکھ اور تکلیف میں گزارنی پڑے گی۔ خُدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے اور ہر ایک نجات کی خوشخبری کو سُنے اور اُس پر ایمان لائے۔

زبور نویس اِس دسویں آیت میں خُدا سے منت کر رہا ہے کہ اے خُدا! تُو شریر کی عدالت کر اور اُسے مجرم ٹھہرا۔ اور وہ منصوبے جو وہ میرے خلاف بنا رہے ہیں وہ آپ ہی اُن میں پھنس جائیں اور تباہی و بربادی کا شکار ہوں۔

وہ اِس زبور میں خُدا کو بہت سی باتیں یاد دلاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ خُدا سے کہتا ہے کہ خُداوند تُو ایسا خُدا، تُو اِس طرح کے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے، تُو رحم کرنا پسند کرتا ہے، تُو عدالت کر، یہ لوگ ایسے ہیں، یہ شرارت کرنے والے لوگ ہیں تُو اِن کی عدالت کر اور اِن کے ساتھ ایسا سلوک کر۔

وہ یہاں پر اُن کے لئے رحم نہیں مانگتا ہے بلکہ لکھا ہے کہ وہ اُن کے لئے خُدا کو عدالت کرنے کے لئے کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ خُود ہی اپنے بنائے ہوئے منصوبوں میں گرفتار ہو جائیں، جو پھندے اُنہوں نے دوسروں کے لئے چھپ کر لگائے ہیں وہ خُود اُن میں پھنس جائیں۔ اِس آیت کے آخری حصے میں وہ خُدا سے کہتا ہے کہ تُو اُن کو اُن کے گناہوں کی کثرت کے سبب سے خارج کر دے۔ جس کی وجہ وہ خُدا کے آگے یوں بیان کرتا ہے کہ کیونکہ

اُنہوں نے تجھ سے سرکشی کی ہے۔ وہ خُدا سے کہہ رہا ہے کہ اے خُداوند یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے وفادار نہیں ہیں اور یہ تیری راہوں پر نہیں چلتے ہیں بلکہ یہ تو تیرے خلاف باغی ہیں۔ عام طور پر ہمیں اس زبور میں سے خُدا کے بندے کی جانب سے اُس کی عدالت کے بارے میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اس بات کی آگاہی ملتی ہے کہ اس سے پہلے کہ عدالت کا کام شروع ہو اپنی بُری راہوں سے باز آئیں اور خُدا کے پاس آئیں۔ جو کہ خُداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں کچھ اشارہ کر رہا ہے۔ اپنی اپنی راہوں کو پہچانیں اور اُنہیں دُست کریں تاکہ آپ کو پکھتانا نہ پڑے۔ کچھ مزامیر میں ہمیں خُدا کے بندے داؤد کے الفاظ بھی یوں ملتے ہیں کہ اے خُداوند تُو مجھے جانتا ہے اور تجھے معلوم ہے کہ میں تیرا خادم ہوں۔ تُو میری عدالت کر اور دیکھ کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا ہے تو مجھے سزا دے اور اگر میں نے ایسا نہیں کیا ہے تو مجھے رہائی عطا فرما۔ میں جانتا ہوں کہ تجھے بدی سے نفرت ہے اور تُو شرارت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لئے میں تیرے احکامات کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو بدی سے روک رکھا ہے۔ بدی کسی بھی طور سے تعمیر نہیں ہو سکتی ہے اور شریر ہمیشہ تخریب کاری کا سبب بنتے ہیں۔ خُدا کسی بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے جو دوسروں کے لئے غیر تعمیری سوچ رکھتا ہو۔ جب بھی آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نظر کریں تو ہمیشہ اپنے آپ سے اس کا آغاز کریں اور دیکھیں کہ آپ کہاں تک خُدا میں قائم ہیں۔ آپ کس حد تک اُس کی مرضی کو اپنی زندگی کے وسیلہ سے پورا کر رہے ہیں۔ کیا آپ

اپنے خاندان اور ارد گرد کے لوگوں کے لئے برکت کا سبب ہیں؟ کیا آپ کے وسیلہ سے لوگ  
خُدا تک رسائی حاصل کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں سے خُدا کی مرضی پوری ہو رہی  
ہے؟

یہاں پر جس آیت پر ہم ابھی غور کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ خُدا کا بندہ خُدا سے شریروں  
کی عدالت کرنے کو کہہ رہا ہے۔

لیکن جب ہم گیارہویں آیت میں سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اس سے مُتضاد صورت حال  
دیکھنے کو ملتی ہے۔ آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں:

لیکن وہ سب جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شادمان ہوں  
وہ سدا خُوشی سے للکاریں کیونکہ تُو اُنکی حمایت کرتا ہے۔  
اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں شاد رہیں۔  
اور پھر آخری آیت میں یوں مرقوم ہے کہ:

کیونکہ تُو صادق کو برکت بخشیدگا

اے خُداوند! تُو اُسے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لے گا۔

یہاں پر ہمیں خُوشی کا ذکر ملتا ہے لیکن یہ صرف اُن کے بارے میں خواہش کی گئی ہے  
جنہیں خُدا کی جانب سے تحفظ حاصل ہے۔ شریروں کے بارے میں ہمیں خُوشی کا کوئی ذکر  
دیکھنے کو نہیں ملتا ہے بلکہ اس کے برعکس لکھا ہے کہ خُداوند تُو اُن کی عدالت کر اور اُن کو

مُجْرَم ٹھہرا۔ شریروں کی خُوشی ابدی نہیں ہے اور اُن کی شادمانی میں خُدا کی جانب سے پائیداری شامل نہیں ہے۔

شادمانی سے مُراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ شریر اس سے محروم ہیں بلکہ ایک راستباز شخص کے لئے یہ خُدا کی جانب سے اُس کی محافظت کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ خُدا شریر کو تحفظ فراہم نہیں کرتا ہے اور اُس کے دُشمنوں کے مُقابلے میں اُس کی کُمک نہیں کرتا ہے۔ صادق اس بات کی بدولت خُدا میں خُوشی مناتا ہے کیونکہ خُدا اُسے اُس کے دُشمنوں سے بچاتا ہے۔ زبور نویس بیان کرتا ہے کہ خُدا اُسے اپنے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لے گا۔ وہ خُدا کی اپنے لوگوں کے لئے محافظت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ خُدا اپنے لوگوں کو اس طرح محفوظ رکھتا ہے جیسے مُرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے اُسی طرح خُدا بھی اپنے لوگوں کو اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ جب کوئی شکاری پرندہ یا کوئی جانور مُرغی کے بچوں پر حملہ کرتا ہے تو وہ فوری طور پر اپنے ماں کی جانب بھاگتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اُن کی ماں اُن کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لے گی اور وہ وہاں پر اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتے ہیں۔ وہ فوری طور پر چلاتے ہیں اور بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ مُرغی اپنے پروں کو اُن کے اوپر پھیلاتی ہے اور اُنہیں اکٹھا کرتے ہوئے اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے۔ یوں وہ بچے اُس شکاری پرندے یا جانور سے محفوظ رہتے ہیں۔ یوں اس خوبصورت مثال کو استعمال میں لاتے ہوئے خُدا کی محبت کو بیان کیا جاتا ہے۔

اور پھر آخری آیت میں یوں مرقوم ہے کہ:

کیونکہ تُو صادق کو برکت بخشیدگا

اے خُداوند! تُو اُسے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لے گا۔

خُداوند اپنے طالب کو اپنی برکات سے نوازتا ہے۔ اس آیت کے آخری حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خُداوند اپنے خادم کو اپنے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لیتا ہے۔ جب لوگ جنگ کے لئے جاتے تھے تو جنگی لباس میں سے ایک اہم چیز سپر کہلاتی تھی۔ یہ ایک طرح کی چمڑے سے بنی ہوئی چادر ہوتی تھی جسے ایک سورما اپنے سارے جسم پر پہن لیتا تھا۔ اس کی بدولت جب دُشمن کی تلوار اُس کے جسم کے کسی حصے کے ساتھ ٹکرا جاتی تھی تو وہ اُسے زخمی نہیں کر پاتی تھی اور یوں وہ دُشمن کے حملوں سے محفوظ رہتا تھا۔ خُداوند اپنے لوگوں کے لئے ڈھال اور سپر ہے۔ تو جس طرح سے مُرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے اُسی طرح سے خُداوند اپنے لوگوں کو اپنے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لیتا ہے۔ اس لئے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں اور خُدا کے ڈھال اور اُس کی سپر کے پیچھے رہیں اور اُس میں خُوشی شادمانی سے زندگی بسر کریں۔ خُوشی کے اظہار کا ایک خوبصورت انداز گانا ہے۔ بہت سے لوگ جب خُوش ہوتے ہیں تو وہ گاتے ہیں اور میں جب بہت خُوش ہوتا ہوں تو میں زبور گاتا ہوں۔

زبور ۵ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف ایک دُعا ہی نہیں ہے جسے ہم اپنی پرستش میں خُدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں بلکہ یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم انسانیت کو خُدا کے بغیر

دیکھ سکتے ہیں۔ یوں ہم اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر خُدا کی جانب سے تحفظ نہ ہو تو انسانیت کی حالت کیا ہوگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان خُدا کے بغیر اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو اُس کے بارے میں یوں لکھا ہوا ہے جیسا کہ ہم نے ۹ آیت میں سے پڑھا ہے کہ خُدا کا بندہ یوں بیان کرتا ہے:

کیونکہ اُن کے مُنہ میں ذرہ سچائی نہیں

اُنکا کا باطن محض شرارت ہے

اُنکا گلا کھلی قبر ہے

وہ اپنی زبان سے خُشامد کرتے ہیں۔

یہ اُن لوگوں میں پائی جانے والی خصوصیات ہیں جو خُدا کے بغیر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اُن

کی بات چیت میں گناہ پایا جاتا تھا۔ اور یہ نہ صرف خُدا کی نظر میں ایک گھنونا گناہ تھا بلکہ یہ

انسانیت کے لئے بھی تکلیف کا سبب تھا۔ اس لئے جب ہم نئے عہد نامے میں مزامیر کا

مُطالعہ کرتے ہیں تو یہ صرف خُدا کے حضور میں دُعا کے لئے ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے

استعمال سے ہم اپنے آپ کو بھی پرکھ سکتے ہیں۔ اور یوں ہم انہیں اُس وقت میں جب ہم

اپنے دُشمنوں کی وجہ سے مُصیبت کا شکار ہوں رہائی اور نجات کے لئے بھی استعمال میں لاتے

ہیں۔ اور میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بعض حالات میں ہم خود اپنے سب سے بڑے

دُشمن ہوتے ہیں۔ بہت سی مسائل اور مصائب کے آنے کی وجہ ہم خود ہی ہوتے ہیں۔ اکثر

ہم جانتے ہوتے ہوئے بھی کچھ غلط کاموں کو سرانجام دے دیتے ہیں۔ اس لئے میں اکثر خُداوند سے منت کرتا ہوں کہ اے خُداوند تُو میری مدد کر کہ میں اس کام کو نہ کروں، خُداوند میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تُو میری مدد کر کہ میں اپنی زندگی میں صرف اُن کاموں کو ہی سرانجام دوں جن میں تیری کامل مرضی شامل ہو۔ اگرچہ ہم اپنے آپ کو اخلاقی طور پر ہر لحاظ سے کامل نہیں پاسکتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو جانچ سکتے ہیں۔ میں جب بھی جتنے بھی مُشکل حالات میں ہوتا ہوں میں خُدا سے ہی دُعا کرتا ہوں اور وہ مجھے جواب دیتا ہے۔ خُدا میری مدد کرتا ہے اور مجھے باہر نکلنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ میرے ذہن میں اُن تمام باتوں کو ڈال دیتا ہے جن کے بارے میں میں اپنی سمجھ سے خیال نہیں کر پاتا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ خُدا کی ڈھال اور اُس کی سپر کے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی اپنی حفاظت کے مُعللے میں پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ بلکہ اس کے برعکس آپ خُداوند میں خوشی اور شادمانی کی زندگی بسر کریں گے اور یہ خوشی اور شادمانی ابدی ہوگی۔ اگرچہ آپ اپنے دُشمنوں کے بارے میں بھی بُرا نہیں چاہتے ہونگے اور آپ اُنہیں برباد کرنا نہیں چاہتے ہونگے۔ تو بھی آپ کو اُن کی جانب سے مخالفت کا سامنا ہوتا ہے اور یہ ہی فرق ہے جو خُدا کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔

اس زبور میں ہم دیکھتے ہیں کہ خُدا کا بندہ خُدا سے اپنے دُشمنوں کے لئے بربادی مانگتا ہے اور چاہتا ہے کہ خُدا اُن کی عدالت کرے اور اُنہیں سزا دے۔ لیکن جب ہم خُداوند یسوع مسیح

ہوتے ہیں تو وہ ہمیں تبدیل کرتا ہے اور ہم اسی زبور کی دس اور گیارہ آیت میں دیکھتے ہیں جہاں پر دسویں آیت میں انہیں گناہگار ثابت کیا گیا ہے۔ لیکن گیارہویں آیت میں ان کے تعلق سے بات کی گئی ہے جو اُس میں پناہ لیتے ہیں۔ ہم اِس سے پہلے دشمنوں میں ہی شمار ہوتے تھے لیکن دسویں سے گیارہویں آیت میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خُدا کے بٹے ہمارے خُداوند یسوع مسیح میں سے ہم دھوئے جاتے ہیں اور ہمیں اُس کے فضل کی بدولت نجات عطا کی گئی ہے۔ اور سب سے اہم اور بڑی بات یہ ہے کہ اُس نے ہمیں یہ بالکل مُفت عطا کی ہے۔ اُس نے اِس کے لئے کوئی قیمت نہیں ٹھہرائی یا ایسا نہیں کہا کہ تمہیں فلاں کام کو سرانجام دینا ہوگا تاکہ تم اِس نجات کو حاصل کر سکو۔ بلکہ اُس نے ہر ایک کے لئے اِسے مُفت فراہم کیا تاکہ ہر کوئی اِسے باآسانی حاصل کر سکے اور ابدی زندگی میں داخل ہو سکے۔ اُس نے ہمارے لئے اِس دروازے کو کھول دیا ہے تاکہ ہر کوئی آئے اور بلا روک ٹوک اِس میں داخل ہو جائے۔ آئیے ہم آج کی اِس ساری بات چیت کو یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں اور خُدا سے اپنے لئے راہنمائی مانگتے ہیں۔ آئیے ہم دُعا کریں:

خُداوند ہمارے آسمانی باپ ہم تمہ دل سے شکر گزار ہیں اِس خوبصورت آزادی کے لئے جو ہم تجھ میں رکھتے ہیں۔ اِس پناہ اور تحفظ کے لئے کہ تُو ہمیں اپنے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لیتا ہے۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو ہماری سپر، ہماری پناہ، ہماری ڈھال ہے اور اِس بات کے لئے کہ تُو ہمیں اپنے پروں میں چھپا لیتا تاکہ ہمیں دشمن سے محفوظ رکھے۔ ہماری

زندگیوں میں تیری شمولیت کے لئے اور اس رسائی کے لئے ہم شکر گزار ہیں کہ ہم صرف تیرے پیارے بیٹے خُداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہی اس نجات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ خُداوند ہم اپنے آنے والے سارے وقت کے لئے تجھ سے منت کرتے ہیں کہ بخشش ہم اپنے دشمنوں کو دل سے مُعاف کر سکیں اور تیری مرضی کو اپنی زندگی کے وسیلہ سے پُورا کریں۔ ہمیں سکھا کہ ہم تجھ ہی سے مانگیں اور جس طرح سے ہم نے آج کے زبور میں سے سیکھا ہے ہم تجھ ہی میں شادمانی حاصل کریں اور تیری پناہ میں رہیں۔ ان تمام لوگوں کے لئے تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو آج کے دن میں ہمارے ساتھ ہیں اور منت کرتا ہوں کہ تُو انہیں برکت دے اور اپنے نام کے جلال کے استعمال میں لا۔ بخشش کہ ہم تیری خدمت کرتے ہوئے تیرے پیارے بیٹے کے کردار کی پیروی کریں۔ ہم یہ سب کچھ اُسی کے وسیلے سے تجھ سے مانگتے ہیں۔ سُن اور اپنی حضور سے ہمیں عطا فرما آمین۔